

١٨٥



كِوَاْلِفْ وَ صَاحِفَ

۱۸۵

کوافر و صحائف

ادارہ مطبوعات پاکستان
پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی

مئی ۱۹۵۷ء

قیمت دو روپے

مطبوعہ فیروز سمنز ، کراچی

ہندو رجھات

مولانا غلام رسول مہر :

مذہبی رجحانات

۱

ڈاکٹر محمد باقر :

تعالیم

۷

شکور احسن :

سیاسیات

۱۳

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی :

زبان

۲۲

سید عابد علی عابد :

ادب

۳۱

خلیل الرحمن داؤدی

دہلی کے اخبارات

۴۱

ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی :

بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ

۵۳

ڈاکٹر ابواللیث ہمدیقی :

بہادر شاہ ظفر کے فرمانیں ۶۰

ریڈیو پاکستان لاہور :

انگریز افسروں کے خطوط

۶۹

مولانا غلام رسول مہر :

غالب کے مکاتیب

۷۵

دیباچہ

۱۸۵۷ع ہماری زندگی کی ایک اہم تاریخ ہے جو گزشتہ سو برس ہمارے ذہنوں میں برابر تازہ رہی اور آئندہ بھی بھولی نہ جا سکیگی۔ اس برصغیر کی پہلی عوامی جدوجہد، جس کا نام بیرونی حکومت کی مصلحت کے بموجب صرف ”خدر“، قرار پایا، اس سرزمین پر اپنی آزادی کو محفوظ کرنیکی آخری کوشش تھی جو ہم نے کی اور اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھکر ہماری ہی تباہی کا موجب ہوئی اور ہم ہی مخصوصاً بیرونی حکومت کی داروگیر کا نشانہ بنے۔ یہ ہمارے عہد حکمرانی کا آخری باب تھا جو ہمارے خون سے لکھا گیا۔ ایک طرف یہ ایک سیاسی انقلاب تھا جس نے اس دور ملوکیت کو گویا اپنے طبعی انجام تک پہنچایا جس میں شہاب الدین غوری بلکہ محمد بن قاسم کی آمد سے لیکر مغلوں کے دودمان عالی شان تک بہت سے غلامان محمد، صاحب تاج و سریر اور اس برصغیر کے ہر دلعزیز حکمران رہے۔ دوسری طرف ہر سیاسی انقلاب کی طرح اس نے ہماری تمذیبی تاریخ کا بھی ایک نیا ورق الٹا۔ وہ معاشرہ جس میں پچھلی صدی کے وسط تک یہ تمذیب پہلتی پہلوتی رہی منتشر ہو گیا، اور نئی شیرازہ بندی میں بعض جدید عناصر بھی لازماً داخل ہوئے جیسا کہ زمانے کا مقتضا تھا۔

یوں تو ۱۸۵۷ء کے واقعات ہماری ناکامی کا افسانہ ہیں لیکن زندہ قوموں کی تاریخ میں ایسے سانچات اکثر آتے ہیں۔ دیکھنے کے قابل یہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ان سے کیا سبق لیا۔ اکثر مستقبل کی کامرانیوں کے سرے بھی وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ماضی کی ناکامی کا سلسلہ تمام ہوتا ہے۔ وہ قومیں جو قوت حیات سے بہرہ مند ہوں تاریخ کے چینچ کو کبھی یوں بھی قبول کرتی ہیں کہ ۱۸۵۷ء کی قربانیاں ۱۹۴۷ء میں رنگ لاتی ہیں۔

ہمارے لئے وہ تاریخ اور وہ دور بہرحال بہت اہم ہے جیکہ ہماری ملی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو رہا تھا۔ یہ کتاب چند نشری تقریروں سے ترتیب دی گئی ہے جو ریڈیو پاکستان لاہور سے کی گئیں اور جن میں فاضل مقررین نے اس عہد کی ذہنی و سماجی زندگی کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں بعض ایسی دستاویزات پر بھی نظر ڈالی ہے جن میں جنگ آزادی کا افسانہ مذکور ہے۔ ان صحائف میں اردو صحافت کے اولین نمونے بھی شامل ہیں اور اردو نشر کے بعض نوادرات بھی، خصوصاً غالب کے مکاتیب، جنکی ادبی حیثیت مسلم ہے۔

ہم اس مقید و دلچسپ مجموعے کو بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں اور جناب سید ذوالفقار علی بخاری، ڈائیریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان، کے سمنوں ہیں کہ انہوں نے یہ مضامین ہمیں اشاعت کے لئے عنایت فرمائے۔

مذہبی رجحانات

(غلام رسول مهر)

جنگ آزادی جسے غیر ملکیوں کے دور اقتدار میں "غدر"، کے نام سے شہرت دی گئی بجائے خود ہمارے بر عظیم کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ نہ تھی لیکن نتائج و عواقب کے اعتبار سے اس جنگ کو ہماری تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لئے بھی کہ یہ اجنبی اقتدار کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کی ایک نہایت پر خلوص کوشش تھی۔ اگرچہ بعض اتفاقی حوادث و سوانح کی بنا پر، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اس لئے بھی کہ اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے تمدن، ہماری سیاست، ہماری ثقافت، ہمارے مذہبی رجحانات اخلاق و عادات اور زندگی کے تمام دوسرے شعبوں پر گھبرا اثر پڑا۔ میں اپنی بات چیت صرف مذہبی رجحانات تک محدود رکھونگا۔

غیر ملکی اقتدار کی توسعی کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لئے جو خطرے پیدا ہوئے ان میں سے تین خطرے جنگ آزادی کے بعد نہایت خوفناک شکل میں سامنے آچکے تھے۔ ایک طرف مسیحی مشنری تھے جن کے حملے سب سے بڑھ کر اسلام پر ہورئے تھے۔ اولاً اس لئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں پر سخت ضرب لگ چکی تھی۔ ان کا براۓ نام اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ انگریز حاکموں کے نزدیک معتوب ہونے کے باعث سخت پریشان

حال تھے۔ اس حالت میں ان کے مذہب کو ہدف بنالینا مشنریوں کو سہل بھی نظر آیا اور نتیجہ خیز بھی۔ ٹانیاً بعض مشنری سمجھتے تھے کہ اگر وہ، معاذ اللہ، اسلام کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر کوئی دوسرا مذہب ان کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکیگا۔ تیسرا نے انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھیننا تھا، انہیں یقین تھا کہ مسلمان ہی انکے خلاف اپنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی سیاسی شکست کو مکمل و فیصلہ کرنے بنائے کے خیال سے ان کے مذہب پر اعتراضات کا سیل بہا دیا گیا۔ مشنریوں کی ان کوششوں کے خلاف متعدد مذہبی عالموں نے مردانگی سے جہاد کا سرو سامان کیا جن میں مولانا رحمت اللہ مرحوم و مغفور بانی مدرسہ صولتیہ (مکہ معظمہ) اور ڈاکٹر وزیر خاں مرحوم کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سرسید مرحوم و مغفور نے اس سیل کی روک تھام اور اسلام اور مسلمانوں کے بچاؤ کے لئے جو مجاہدanh کارنامے انجام دئے ان کا سرسری ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔

دوسرा خطرہ یہ تھا کہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھیننا تھا۔ طبعاً مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نہایت سیخت ملال تھا اور انگریز چونکہ مسلمانوں اور صرف مسلمانوں ہی سے خائف تھے اس لئے نظم و نسق ملک میں ان پر اعتماد کے لئے تیار نہ تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے نمایاں حصہ لیا اسلئے انگریزوں کو یقین ہو چکا تھا کہ مسلمان کبھی ان سے تعاون نہ کریں گے۔ یوں ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ انگریزوں کے دور اقتدار میں مسلمان نظم و نسق میں حصہ داری سے محروم ہو کر اس پستی میں گرجاتے جس میں ہزاروں سال سے اچھوت گرے ہوئے تھے۔ تیسرا خطرہ یہ تھا کہ انگریزی اقتدار کی بنیادیں مضبوط ہونے کے بعد انگریزی تعلیم جاری ہو گئی تھی اور روز بروز اسکا دائرہ پھیل رہا تھا۔ مسلمان چاہتے بھی تو اس تعلیم سے بالکل بے تعلق نہ رہ سکتے تھے۔ اگر وہ انگریزی تعلیم

پاتے تو اندیشہ تھا کہ ان کے مذہبی معتقدات پر بہت برا اثر پڑے گا۔ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ صحیح دینی تعلیم کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہا تھا۔ ان حالات کا طبعی نتیجہ یہ ہوتا کہ انگریزی تعلیم کی اشاعت کے ساتھ ساتھ مشنریوں کے لئے مسلمانوں میں اشاعت مسیحیت کا راستہ صاف ہو جاتا۔

سرسید مرحوم وہ بزرگ تھے جنہیں تینوں خطروں کا پورا احساس ہوا اور سنہ ۱۹۰۴ سے زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے جو کچھ کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ ان تینوں خطرہ کا انسداد ہو یعنی :

مشنریوں کے اعتراضات کے محض الزامی جوابات پر قناعت نہ کر لی جائے بلکہ تحقیقی اور علمی جوابات دئے جائیں اور اس سلسلے میں اسلام کی برتری مکمل حقائق کی بنا پر ثابت کی جائے۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان یہی اعتمادی اور بد ظنی کی جو خلیج حائل ہو چکی تھی اسے پاثا جائے تا کہ مسلمان اس سر زمین میں ایک معزز قوم کی حیثیت میں ملکی نظم و نسق کے حصہ دار بن سکیں۔ ان کے لئے انگریزی تعلیم کا ایسا انتظام کیا جائے کہ ان کی اسلامیت نہ صرف مکمل و پائیدار بن جائے بلکہ ان میں اسلام کی حقانیت و افضلیت کا سچا جذبہ اور جوش پیدا ہو جائے، ان کو صرف رسمی اور موروثی حیثیت ہی میں مسلمان نہ سمجھا جائے بلکہ وہ حقیقی معنوں میں پر جوش مسلمان بن جائیں۔

مسلمان اگر انگریزی تعلیم سرکاری درسگاہوں یا مشن سکولوں اور کالجوں میں پاتے تو سخت خطرہ تھا کہ ان کے اسلامی عقائد پر اچھا اثر نہ پڑے گا۔ لہذا سرسید نے اپنے زیر اهتمام ایک معیاری درسگاہ قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جمہاں مسلمانوں کو بہتر مسلمان بنانے کا پختہ انتظام موجود ہو۔ اس ارادے نے علی گڑھ کالج کی شکل اختیار کی اور کوئی شخص اس حقیقت سے انکار نہیں کرسکتا کہ سرسید کی یہ سکیم بہ اعتبار نتائج بہت کامیاب ہوئی اور

علی گڑھ کے نمونے پر مسلمانوں نے جا بجا جتنی درسگاهیں قائم کیں انکی خدماتِ جلیلہ روز روشن کی طرح سب پر آشکارا ہیں ۔

اسی سلسلے میں سرسید نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ۔ اسکا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پائیں انکے سامنے مذہب کو نئی عقلیت کے نقطہ نگاہ سے معقول طریق پر پیش کیا جائے ۔ پیش نظر موضوع اس امر کا متحمل نہیں کہ سرسید مرحوم کی تفسیر پر مخالف و موافق بحثوں کا جائزہ لیا جائے ۔ صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ سرسید نے اس سلسلے میں جو قدم اٹھایا وہ ان کے اختیار کردہ مسلک کا ایک لازمی حصہ تھا ۔ جن اصحاب کو بعض مسائل و امور میں ان سے اختلاف رہا وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ سرسید نے ایک نہایت ضروری اور اہم کام انجام دیا اور اس کے فوائد مضرتوں سے یقیناً زیادہ تھے ۔

علی گڑھ کالج کے خواب کو جامہ عمل پہنانے سے پیشتر سرسید نے بائبل کی تفسیر بھی لکھنی شروع کی تھی ۔ خواجہ حالی کے بیان کے مطابق وہ عہد عتیق میں سے کتاب پیدائش کے گیارہویں باب تک پہنچے تھے اور اسلوب یہ اختیار کیا تھا کہ بائبل کے جو بیانات قرآن مجید کے مطابق تھے ان کی توضیح کرتے ۔ جہاں اختلاف نظر آتا اسکی وجہ بیان فرماتے ، اور اسلام کی محکمیت ثابت کرتے ۔ اس کوشش کا مقصد بھی یہی تھا کہ اختلافات کے بغایے موافقات سامنے آئیں اور انہیں پر توجہ مرکز ہو ۔ اجنبیت کی خلیج کو پائی کی یہ بھی ایک شکل تھی ۔ اس سے ہمارے الہامی مذاہب کے تقابلی مطالعے کی بنیاد پڑی ۔ یہ سلسلہ دینی مقاصد کی پیش برد کے لئے بے حد مفید تھا ۔

علماء کرام کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ہر قسم کی سیاسی مشکلات کے باوجود انگریزوں سے تعاون کا روا دار نہ ہوا ۔ انہوں نے جابجا خالص دینی درسگاهیں قائم کیں تاکہ مسلمانوں میں دینی حمیت کو زندہ رکھیں اور ان کے لئے ان سے استفادے

کے موقع بہم پہنچائیں جو دین کے حقیقی سرچشمے تھے اور زوال کے بعد ان کے بہرہ مندی کے موقع بڑی حد تک ختم ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سی درسگاہوں کے نام لئے جاسکتے ہیں جو اس بر عظیم کے طول و عرض میں جا بجا قائم ہوئیں اور اب تک موجود ہیں۔ اس سلسلے کی جس درسگاہ نے سب سے بڑھ کر شہرت پائی وہ دیوبند کی درسگاہ تھی۔ اسکی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رح اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رح نے رکھی۔ یہ بالکل معمولی سرو سامان کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ لیکن بانیوں کے اخلاص اور حب اسلام کی بدولت اس بر عظیم کی نہایت اہم دینی درسگاہ بن گئی۔ حضرت مولا ناصح محمد قاسم، دین اسلام پر مخالفوں کی نکتہ چینیوں کے جوابات دیتے رہے۔ خواہ وہ نکتہ چینیاں مشنریوں کی طرف سے ہوں یا دوسرے مذاہب کے پیروؤں کی طرف سے۔ اس سلسلے میں ان کے خطبات اور تقریریں ادب اسلامیہ کا ایک گران قدر سرمایہ ہیں۔

علیگڑھ اور دیوبند بظاہر دو مختلف قسم کی درسگاہیں تھیں لیکن ان دونوں نے مسلمانوں کی دینی و دنیوی، علمی و سیاسی اور اخلاقی و ثقافتی میراث کو بہتر سے بہتر طریق پر محفوظ رکھنے کی جو کوششیں کیں انکی مشکوریت سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان ۱۸۵۷ع میں بد ظاہر اپنا سب کچھ کھو چکے تھے وہ تھوڑی ہی مدت میں سنبھل کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انتہائی سرگرمی سے آگئے بڑھے اور از سر نو ایک زندہ، غیور اور مجاهد قوم بن گئے۔ جزوی یا بعض معاملات میں ناکامیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے جن سے کسی قوم کو بھی زندگی کے مختلف مراحل میں مفر نہیں، اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ جن مسلمانوں کے متعلق ۱۹۰۴ع کی جنگ آزادی کے بعد سمجھا جا چکا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکے ہیں، وہ نہ صرف اٹھے بلکہ اس وسیع سر زمین کی تقدیر میں نہایت اہم وظیفہ بجا لانے کے قابل بن گئے۔ حالانکہ انہیں کسی دائرے

میں وہ وسائل مہیا نہ رہے تھے جو اس ملک میں ایک هزار سال سے زیادہ مدت تک انکی قومی میراث بنے رہے۔

ان دینی اور قومی مجاهدوں کی فہرست بہت طویل ہے جنہوں نے ۱۸۵۷ء کا خونیں دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ نتائج سے متالم ضرور ہوئے ہوں گے لیکن نہ اسلام پر ان کے ایمان کی پختگی میں فرق آیا نہ انکے قدم ہمت میں لغزش پیدا ہوئی۔ نہ ان کی غیرت و حمیت کی حرارت میں افسردگی آئی۔ نہ وسائل کا فقدان ان کا عنان گیر ہوسکا۔ وہ اپنے فرض کو پہچانتے ہوئے اٹھے اور انہوں نے عمل کے جو راستے ہموار کر دیئے تھے ان پر چلنے کے لئے پوری قوم میں بے پناہ جوش پیدا کر دیا۔ انہیں بزرگوں کے پر خلوص کارناموں کی برکت تھی کہ مسلمانوں نے حقیقی مذہبی میراث کے تحفظ کو اپنا نصب العین بنایا۔ باقی رہا یہ امر کہ ہم اس میراث کی عظمت و جلالت کو بحال رکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں یا کامیاب ہوں گے تو اس بارے میں فیصلے کا قلم حال کے نہیں بلکہ مستقبل کے ہاتھ میں ہے۔

تعلیم

(ڈاکٹر محمد باقر)

جنگ آزادی کا اثر تعلیم پر کیا ہوا، اس کا جائزہ لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سن ستاؤن کے انقلاب سے پہلے ہمارا نظام تعلیم کیا تھا۔ اس سلسلے میں اب تک جو تحقیق ہو چکی ہے وہ اس امر کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جنگ آزادی سے پہلے اور جنگ آزادی کے بعد تک مدارس اور درسگاہوں کا ایک غیر مختتم سلسلہ پنجاب سے لیکر بنگال تک پھیلا ہوا تھا - ۱۹۲۲ع میں مصر سے ایک کتاب "صبح الاعشی" کے عنوان سے بارہ جلدیوں میں شائع ہوئی تھی جو مختصر پیمانے پر اپنے عہد کا انسائیکلو پیڈیا تھا۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب ہندوستان میں خاندان تغلق حکمران تھا۔ اس میں درج ہے کہ صرف ہند کے پایہ تخت دلی میں ایک هزار مدرسے قائم تھے۔ اس زمانے میں تعلیم کے لئے عموماً علیحدہ عمارتیں نہیں ہوتی تھیں - زیادہ تر یہ کام مساجد سے لیا جاتا تھا۔ اور تمام مسجدیں مدارس کا کام دیتی تھیں اسلئے ہر قدیم مسجد ایک بڑی درسگاہ تھی۔ یہی سبب ہے کہ ہندوستان کے قدیم اسلامی شہروں میں قدم قدم پر ہم کو وسیع اور شاندار مسجدیں ملتی ہیں۔ دلی، آگرہ، لاہور، جونپور، احمد آباد، گجرات وغیرہ قدیم اسلامی دارالسلطنت میں جو عظیم الشان مسجدیں تعمیر ہوئی تھیں اور جو اب تک

باقی ہیں ان کی ہیئت کذائی صاف بتاتی ہے کہ ان کا بڑا حصہ تعلیم گاہوں کے کام آتا تھا۔ ان مسجدوں میں اب تک صحن کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجروں کا وسیع سلسلہ نظر آتا ہے جو درحقیقت طلباء اور معلمین کے رہنے کے مقامات تھے۔ قدیم خانقاہیں بھی تعلیم گاہوں کے مصرف میں آتی تھیں۔ سلاطین اور بزرگان کرام کی قبروں پر جو مقبرے اور روضے تعمیر ہوتے تھے ان کے ساتھ ارد گرد بہت سے حجرے اور کمرے اسی غرض سے تعمیر ہوتے تھے کہ وہ مدرسوں کے کام آئیں۔

اجمالی طور پر یہ بتانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان درسگاہوں میں نصاب تعلیم کیا تھا۔ میں صرف وہی نصاب عرض کروں گا جو جنگ آزادی سے معاً قبل رائج تھا کیونکہ اس سے پہلے نصاب تبدیل بھی ہوتا رہا ہے۔ اسلامی درسگاہوں کے نصاب میں جو فنون اور کتابیں شامل تھیں انکی تفصیل یہ ہے :

صرف و نحو، بلاغت، ادب، فقد، اصول فقہ، منطق حکمت، کلام ریاضی، فرائض، مناظرہ، تفسیر اصول حدیث، حدیث۔ اس نصاب کو کرنے کے لئے جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اسکا ذکر کروں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ بہر صورت مختصر طور پر یہ نظام تعلیم جنگ آزادی سے پہلے رائج اور مقبول تھا۔

سن ستاؤں کے ہنگامے کے بعد جب انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سر زمین میں مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو مسلمان مفکرین کو محسوس ہوا کہ اب سیاسی زوال و انحطاط کے ساتھ مسلمانوں کے دین و مذہب اور ان کی قومی زندگی کی بھی خیر نہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے مسلمان ارباب فکر و علم نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ کی، لیکن ارباب فکر کے دو طبقے ہو گئے ایک طبقہ جو علماء کرام کا تھا، اس نے اپنی تمام تر توجہ قدیم نصاب درس کی تعلیم پر مرکوز کر دی۔ اسی مقصد کے لئے عربی مدارس قائم کئے گئے اور ان کے ذریعے دینیات یعنی تفسیر حدیث، فقد اور ان کے ساتھ عربی زبان سے متعلق علوم و فنون

کی تعلیم کا ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے برعکس دوسرا طبقہ متعددین کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی خیریت اسی میں سمجھی کہ مسلمان انگریزوں کی زبان اور ان کے علوم و فنون سیکھیں۔ بلکہ تمذیبی اور تمدنی لحاظ سے بھی انہیں کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش خان بہادر نواب عبداللطیف نے کی جنہوں نے سن ۱۸۶۳ع میں (Mohammadan Literary Society) کے نام سے کلکٹہ میں ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس میں شہر کے متوسط اور امیر طبقہ کے لوگ جمع ہو کر مسلمانوں کی تعلیم کے مسائل پر غور کرتے اور انگریزی کی تعلیم و تبلیغ کا احساس اپنے اراکین کو دلاتے۔ چنانچہ اس انجمن کی مساعی اس حد تک کامیاب ہوئیں کہ جلد ہی کلکٹہ کے مدرسہ عالیہ میں انگریزی نصاب میں داخل ہو گئی۔ اس انجمن کی شہرت اور مقبولیت سے ملک کے دوسرے شہروں میں بھی انگریزی کی تعلیم کے رواج کا پرچار ہوا اور وہاں بھی اس قسم کی انجمنیں معرض وجود میں آئیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کس قسم کی تعلیم کو رواج دیا جائے اور لوگوں کو تعلیم دینے کے لئے کس قسم کے ادارے قائم کئے جائیں۔ مسلمان جب اس تذبذب کے عالم میں تھا تو انگریز اپنا تسلط جمانے اور اقتدار مستقل کرنے کی فکر میں تھا۔ اس لئے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قدیم مدارس اور تعلیم گاہوں سے قطعی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ان درسگاہوں کے معلمون کو پہلے بادشاہ سے لیکر مقامی حکمرانوں تک سے وظائف اور مشاہرے ملتے تھے لیکن جب حکمران ہی بدل گئے تو ان کی خدمات کا معاوضہ کون دیتا۔ نتیجہ یہ کہ پرانی قسم کی درسگاہیں از خود اپنے دروازے بند کرنے لگیں اور ان کے طالبعلم یا تو جہالت اور گنوار پن کی نذر ہو گئے یا نئے قسم کے سکولوں میں جانے لگے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ سن ۱۸۵۹ع میں حکومت ہند نے جو اطلاع حکومت انگلستان کو ہندوستانی تعلیم کے متعلق بھیجی ہے اس میں لکھا ہے:

”غربا سکولوں میں جانا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنے مفلس ہیں کہ سکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے اور ان کے والدین انکی مزدوری سے ان کے لئے نان و نفقة بہم پہنچاتے ہیں۔ متوسط طبقے کے لوگ اور امرا صرف انگریزی طرز کے سکولوں کے لئے کچھ قربانی کرنے کے لئے تیار ہیں، نتیجہ یہ کہ انگریزوں نے سرکاری طور پر اور عیسائی مبلغین کے زیر اہتمام ہندوستان میں پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کھلوائے، لیکن قدیم درسگاہوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کیا تھی، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ ۱۸۸۲ع میں سارے بنگال میں صرف ۱۵۶ ہائی سکول تھے جو حکومت انگلشیہ کی زیر نگرانی کھلوائے گئے تھے۔ حکومت ہند نے ۱۸۵۷ع میں یونیورسٹی ایکٹ بھی پاس کیا اور ہندوستان میں یونیورسٹیاں بھی کھلنے لگیں۔ سب سے پہلی یونیورسٹی ۲۳ جنوری ۱۸۵۷ع کو کلکتہ میں قائم ہوئی اور اسی سال ۱۸۵۷ جولائی کو بمبنی یونیورسٹی کھلی۔ لیکن یہ سارا ڈھانچہ اس قسم کا تھا جس میں انگریزی تو مقبول ہوئی اور انگریزی تعلیم سے لوگ فیضیاب ہونے لیکن لکھنے پڑھنے والے لوگ دن بدن کم ہوتے گئے۔ اور ان پڑھ عوام کی تعداد بڑھتی گئی۔

۱۹۳۱ع میں حکومت ہند نے جو تعلیمی رپورٹ شائع کی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں صرف ۱۶ فیصدی مرد اور ۳ فیصدی عورتیں پڑھ سکتی تھیں۔ وجہ ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت تک ہندوستان کی بیشتر نئی درسگاہوں میں ذریعہ تعلیم انگریزی ہو گیا تھا، جو غیر ملکی زبان تھی اور جسے سیکھنے کے لئے طلباء کا کافی وقت صرف ہو جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ تعلیم کے اخراجات بہت بڑھ گئے تھے۔ تیسرا یہ کہ درسگاہوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ جنگ آزادی سے پہلے اجمیر، دہلی، پنجاب، نارنول، آگرہ فتح پور سیکری، متھرا، نروار، بدایون، دارا نگر، رامپور روہیلکھنڈ، اوڈھ، الہ آباد، فرخ آباد، جونپور، غازی پور، بہار، بنگال، دکن

مالوہ، اچھہ، ملتان، کشمیر، گجرات، سورت، اور لاہور میں، جہاں ہمیں
ہزاروں درسگاہوں کے نشان ملتے تھے، وہاں اب ہر صوبے میں اور
وہ بھی صرف بڑے بڑے شہروں میں چند درجن مدرسوں کی تعداد
ملتی ہے۔

اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے۔ قدیم و جدید درسگاہیں
ایک نہ ایک ضرورت کی تکمیل کرتی تھیں۔ لیکن افسوس ناک
امر یہ تھا کہ دونوں میں ایک طرح کی رقابت اور چشمک زنی پیدا
ہو گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قدیم تعلیم یافتہ حضرات کو جدید
گروہ سے نفرت تھی اور اسی طرح جدید گروہ قدیم تعلیم کے اصحاب
سے بیزار تھا۔ ۱۹۲۱ع میں تحریک خلافت کا زور ہوا تو اس نے سب کو
ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا اور اس میل جول کا نتیجہ
یہ ہوا کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کے معائب و محاسن
کو قریب سے دیکھا اور نیک نیتی سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی
اصلاح چاہی۔ انہیں اس مقصد میں کامیابی ہوئی یا نہیں لیکن
ایک بات ضرور ہے کہ اس میل ملاپ سے چند اور نئی قسم کی
درسگاہیں معرض ظہور میں آگئیں۔ مثلاً مسلم یونیورسٹی علیگڑھ
سے اصلاح کا جو نعرہ بلند ہوا اس کی بدولت جامعہ ملیہ اسلامیہ
نے جنم لیا، اور نصاب عربی اور قدیم علوم میں اصلاح کا جو مطالبہ
پیدا ہوا اسکے اثرات ندوۃ العلماء میں ظاہر ہوئے۔ گو اب بھی
ان عارضی اور قلیل اصلاحات کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات بار بار
سامنے آتی ہے کہ ملک میں جنگ آزادی کے بعد ناخواندگی روز
بروز بڑھتی ہی گئی اور بڑھ لکھے لوگ کم ہوتے ہی گئے،
گو کالج اور یونیورسٹیوں کے گریجویٹوں کی تعداد روز افزون تھی۔

۱۹۳۸ع میں جواہر لعل نہرو انگلستان گئے تو ان کی
ایک تقریر کے موقعہ پر ہال کو انگریزی راج کی برکات کے اعداد
و شمار سے سجا�ا گیا تھا اور کپڑے کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر
سرکاری کتابوں کے حوالے سے یہ لکھ کر لٹکایا گیا تھا کہ جنگ
آزادی کے بعد ہندوستان میں مختلف قسم کے امراض سے کتنی

اموات سالانہ ہوتی ہیں، اجناس کے نرخ کس قدر بڑھ گئے ہیں، دستکاروں اور علوم کے ماهرین کی تعداد کس قدر کم ہو گئی ہے اور اس موقعہ پر ایک اشتہار میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جنگ آزادی کے بعد درسگاہوں کی تعداد کس قدر کم ہو گئی ہے اور ناخواندگان کی تعداد کس قدر بڑھ گئی ہے۔ جب یہ اعداد و شمار انگریز حاضرین نے دیکھئے تو حیرت سے منه میں انگلیاں چیانے لگے۔ ہمارے کئی انگریز دوستوں نے ہم سے پوچھا کیا یہ حقیقت ہے؟ لیکن ہمارے پاس اس کا جواب اثبات کے سوا کیا تھا۔ کیونکہ انگریز کے ترتیب دئے ہوئے اعداد و شمار خود ہی بول رہے تھے کہ انگریزی نظام تعلیم نے ملکی نظام تعلیم کا قلع قمع کر کے اس کا کوئی مناسب بدل پیش ہی نہیں کیا تھا۔ جس سے خواندگان کی تعداد بڑھ سکتی اور حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اور کالجوں کا یہ غوغائے روا رو حکیم الامت کی زبان میں ابھی تک توجہ کا از حد محتاج ہے۔

سیاسیات

(از شکور احسن)

۷۵ کی جنگ آزادی ناکام رہی تو ہندوستانیوں پر ہولناک مظالم کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ مسلمان خاص طور سے اس مشق ستم کا نشانہ بنے۔ اس لئے کہ انگریز نے حکومت ان سے چھینی تھی اور اسے ان سے انتہا پسندی کا شکوه تھا۔ جنگ آزادی سے چودہ برس پہلے ہندوستان کے گورنر جنرل نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں اور اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ۷۵ کی ناکام جد و جہد کے بعد انگریز نے اس مخالفت کا جی بھر کر بدله لیا۔ ان کے رہنماؤں کو چن کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ان میں شہزادوں سے لیکر عالموں اور شاعروں تک سبھی شامل تھے۔ سرولیم میور نے اپنی کتاب (بغافت ہند) میں بعض خفیہ دستاویزوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ۱۸ نومبر ۷۵ کی صبح کو چوپیس شہزادوں کو دہلی میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ جن میں بادشاہ کے داماد، برادران نسبتی، بھانجے اور بھتیجے شامل تھے۔ جهجہر بلب گڑھ فرخ نگر اور فرخ آباد کے رؤسا نے جنگ آزادی میں بہت نمایاں حصہ لیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض کو سولی پر لٹکادیا گیا۔ اور بعض کو عبور دریائے سور کی سزا ملی۔ مسلمان بستیوں کو اجازہ نے کی منظم کوشش کی گئی، ان میں ایک یہ

بھی تھی کہ فتح پور پر، جس نے بغاوت میں حصہ لیا تھا، حملہ کیا جائے۔ پٹھانوں کے محلے تباہ و برباد کردئے جائیں، اور ان کے تمام مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ دہلی میں جنگ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو ایک عرصہ تک دوبارہ بسنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مرزا غالب کے بعض خطوط سے مسلمانوں کی بے چارگی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خط میں یوں لکھتے ہیں: ”دلی کمہاں، ہاں کوئی شہر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا۔ اہل اسلام میں صرف تین آدمی باقی ہیں میرٹھ میں مصطفیٰ خاں، سلطان جی میں مولوی صدر الدین، بلی ماراں میں سگ دنیا موسوم بہ اسد۔ مردود، مطرود، محروم،۔۔۔

حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں سب فرقے اور قومیں دل و جان سے شریک ہوئیں لیکن جیسا کہ اشوک مہتہ نے اپنی کتاب (’عظیم الشان بغاوت‘) میں لکھا ہے مسلمان تاریخی اور نصب العینی تقاضوں کے تحت انگریز دشمنی میں ہندوؤں سے بے انتہا آگئے تھے، ان میں سے اکثر پر شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور سید احمد شہید کے مجاہدانہ کارناموں کا بڑا گھبرا اثر تھا اور وہ ہندوستان کو غیر ملکی اقتدار سے پاک کر کے ایک آزاد حکومت کا قیام چاہتے تھے۔ چنانچہ جنگ آزادی میں عالموں کی جماعت پیش پیش رہی۔ جنگ میں نہ صرف مسلمانوں کو زیادہ قربانی دینی پڑی۔ بلکہ انہوں نے جنگ کے بعد بھی شکست کا اعتراف کرنے سے انکار کیا۔ اور ایک عرصہ تک اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ ۱۸۶۳ء میں انگریزوں کو سید احمد شہید کے معتقدوں سے آزاد سرحد پر ایک خوفناک جنگ لڑنی پڑی۔ اور انگریز کے خلاف قبائلی علاقہ سے لیکر پٹنه تک بغاوت کی ایک منظم تحریک جاری رہی جسے بعد میں نہایت بے رحمی سے کچلا گیا۔ اور اس تحریک کے علمبرداروں میں سے جن میں مولانا یحییٰ علی اور مولوی محمد جعفر کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے، بعض کو پہانسی کی سزا سنائی گئی۔

وحشت اور درندگی کا جو دورے ہوں کے بعد شروع ہوا وہ مسلسل دس بارہ برس تک جاری رہا۔ جس نے بالآخر مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا۔ اور پوری قوم پر ماہوسی اور افسردگی کا احساس غالب آگیا۔ البته انگریز سے دشمنی اور نفرت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے انگریزی پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ عین اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت سرسید احمد خاں نے اپنے ہاتھ میں لی۔ سرسید کا عقیدہ یہ تھا کہ بدلتے ہوئے حالات میں نئی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اقتصادی طور پر ان کی یہ حالت تھی کہ ان کی زمینداریاں ضبط ہو چکی تھیں اور وہ سرکاری ملازمتوں سے محروم تھے۔ تجارت کے میدان میں پہلے ہی ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ چنانچہ سرسید کے خیال میں قوم کو ورطہ مذلت سے نکالنے کا علاج صرف تعلیم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید نے اپنی تمام کوششیں علیگڑھ کالج بنانے اور معاشرت کی اصلاح کرنے کے لئے وقف کر دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیاسی تقاضوں سے بے خبر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ علیگڑھ کی پوری تحریک کا پس منظر سیاسی تھا۔ تعلیم ان کی نظر میں مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا ایک وسیلہ تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان اسی وقت سیاسی اقتدار حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے ان میں تعلیم کا چرچا ہو اور ان میں قومیت کا احساس اور بلند نظری پیدا ہو جائے۔ سرسید ملکی مسائل میں اتحاد عمل کے حامی تھے اور اس کا یہ ثبوت یہ ہے کہ جب وہ ۱۸۸۳ع میں لاہور آئے تو برهمو سماج اور آریہ سماج کے ایک متفقہ وفد نے ان کی خدمات کو سراہا۔ ہندو مسلم اتحاد کے موضوع پر ان کی متعدد تقریریں موجود ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں انہیں سب سے پہلے ماہوسی اردو هندی کے جھگڑے پر ہوئی۔ اس سلسلہ میں خود ان کے یہ الفاظ زبردست پیشینگوئی کی حیثیت رکھتے ہیں: ”اب مجھکو یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں

کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکینگی۔ ابھی تو بہت کم ہے، آگرے آگرے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھئے گا،۔

دونوں قوموں میں نفاق کی جو صورت پیدا ہو گئی تھی اس کا بیج بونے میں برطانوی حکومت نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ مثال کے طور پر جنگ آزادی کے فوراً بعد مراد آباد کے کمان دار لفٹینٹ کرنل جوہن کرک نے اپنے ایک مراسلہ میں ایک جگہ لکھا کہ حکومت ہند کو لڑانے اور حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کرنا چاہئے ۔ ۱۳۔ مئی ۱۸۵۹ع کو بمبئی کے گورنر لارڈ ایلفنسٹن نے ایک تحریر میں یوں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا：“لڑا کر حکومت کرنا رومنوں کا شیوه تھا، اور یہی شیوه ہمارا بھی ہونا چاہئے،۔ اس پالیسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرسید کی انتہائی کوششوں کے باوجود ہندوستانیوں میں اتحاد عمل اور اتحاد مقاصد کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ۱۸۸۵ع میں جب لارڈ ڈفرن ہندوستان کے واپسائے ہوئے تو انہوں نے انڈین سول سروس کے ایک ریٹائرڈ افسر مسٹر ہیوم کو اس بات کی دعوت دی کہ ایک ایسی انجمن منظم کرے جو حکومت سے تعاون کر سکے اور اسے صلاح مشورہ دے سکے۔ اس انجمن کا نام انڈین نیشنل کانگریس رکھا گیا۔ اس کا پہلا اجلاس بمبئی میں ۱۸۸۵ع میں ہوا۔ اپنے ابتدائی مرحلوں میں حکومت برطانیہ سے وفاداری کانگریس کا شعار تھا۔ اور یکے بعد دیگرے اس کے مختلف لیڈر مثلاً دادا بھائی ناروچی۔ بدرا الدین طیب جی اور فیروز شاہ، اپنے صدارتی خطبوں میں حکومت برطانیہ سے وفاداری اور نیازمندی کا دم بھرتے رہے۔ سرسید نے شدت سے یہ محسوس کیا کہ ہندو مسلم اتحاد کی عدم موجودگی میں کانگریس کبھی کوئی زبردست کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اگرچہ سرسید جمهوری نظام کو پسند کرتے تھے۔ لیکن وہ اس مغربی پارلیمانی نظام

کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے مہلک سمجھتے تھے۔ جس میں ہر فیصلہ اکثریت کے رحم و کرم کا محتاج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کانگریس کی مخالفت کی چنانچہ ۱۸۸۷ع میں اپنی ایک تقریر کے دوران میں انہوں نے کہا کہ اگر کونسل کے ممبر انتخابات سے مقرر ہوں تو کسی طرح مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہندوؤں کی تعداد بمقابلہ مسلمانوں کے چو گنی ہے۔ پس جو طریقہ انتخاب کا قرار دیا جائے گا، اس سے اگر ایک مسلمان ممبر ہو گا، تو چار ہندو ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رہنے اور تعلیمی اور قومی اصلاح پر اپنی تمام قوتیں مرکوز کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی زمانے میں کانگریس کے بعض لیڈروں میں جن میں تاک کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے، کہلم کھلا اپنے خیالات کا اظہار شروع کیا، جس سے مسلمانوں کے جذبات محروم ہوتے تھے۔ ادھر ۱۸۹۳ع کے قانون کے مطابق انتخابات کا نیا طریقہ رائج ہوا۔ گو مسلمانوں کو خاطر خواہ نمائندگی نہ مل سکی کیونکہ ہندوؤں کے مقابلے میں ان کی حیثیت بہت معمولی تھی ملازمتوں میں ان کا حصہ پہلے ہی بہت کم تھا۔ چنانچہ جب ہندوستان کے لئے نئی اصلاحات کا اعلان کیا گیا تو مسلمانوں کا ایک وفد سرسید کے مشہور معتمد دوست اور نائب نواب محسن الملک کی قیادت میں اکتوبر ۱۹۰۶ع میں لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ طریقہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ جو منظور کر لیا گیا۔ اسی سال ۳۰ دسمبر کو ڈھا کہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تاکہ مسلمان اپنے سیاسی حقوق اور مفاد کا تحفظ کر سکیں۔ چند برس تو مسلم لیگ کی پالیسی وہی رہی جس پر کانگریس شروع شروع میں گمزن ہوئی تھی، لیکن جب حکومت ہند نے تقسیم بنگال کے فیصلہ کو منسوخ کیا تو مسلمانوں میں حکومت سے بے اطمینانی اور عدم اعتماد کی لمبڑ دوڑ گئی اور مولانا محمد علی نے جو آگے چل کر تحریک خلافت کے

رہنمای بنے کھلے لفظوں میں حکومت کی پالیسی پر کڑی نکتہ چینی کی۔
اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک نئے دور
کا آغاز ہوا یہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا برطانوی اقتدار کا طسم
ٹوٹ رہا تھا۔ علیگڑھ میں برطانیہ سے بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے
تھے اور عالم اسلام پر مصیبتوں کے جو پھاڑ ٹوٹ رہے تھے
اس نے ہندوستانی مسلمانوں میں بڑی بے چینی پیدا کر دی تھی۔
طرابلس اور بلقان کی جنگوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں
انتہائی جوش و خروش اور اضطراب پیدا کر دیا تھا اسی زمانے
میں مولانا شبی اور علامہ اقبال نے بعض مشہور قومی نظمیں
لکھیں اور مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمدرد
کامریڈ اور الہلال کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ اور
سرفوروشی کا جذبہ پیدا کیا۔ ۱۸۵۷ء کے خونین ہنگامے کے بعد
اسلامی ہند سہما سہما نظر آتا تھا اور حالات کے تقاضے نے
انہیں عارضی طور پر عملی سیاست سے الگ کر دیا تھا۔ لیکن اب
واقعات کا دھارا بدل چکا تھا اور غیر ملکی اقتدار کے خلاف شروع
سے دلوں کے اندر جو نفرت موجود تھی وہ بہوٹ پہوٹ کر باہر
نکل رہی تھی۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ترک دوستی کی وجہ
یہ تھی کہ اب تک دولت عثمانیہ کو اسلامی اتحاد کا مظہر
سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں کے مسلمان یہ ہی سمجھتے تھے کہ
اگر ترکی سلطنت بچ گئی تو یہاں کے مسلمانوں کے استحکام میں
بڑی مدد ملے گی۔ اس زمانے میں دیوبند کے علماء نے بھی سیاست
میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ جنگ آزادی کے نو برس بعد ہی ۱۸۶۶ء
میں دیوبند میں ایک ایسی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی تھی جو
شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مرکز بن سکے۔ چنانچہ اس دور میں
نہ صرف دیوبندی جماعت نے ترکوں کی مصیبت میں مدد کی
بلکہ علی گڑھ اور دیوبند والے ایک سیاسی پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔
پہلی جنگ عظیم سے کچھ عرصہ پہلے دونوں جماعتوں نے متعدد
محاذ بنالیا تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو عثمانی خلافت کو مدد

دینے کا فیصلہ کیا گیا اس پر مولانا محمد علی مولانا شوکت علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کو نظر بند کر دیا گیا۔ اور شیخ المہند کو حجاز میں اسیر کر کے مالٹا بھیج دیا گیا۔

اسی زمانے میں کانگریس اور مسلم لیگ نے متحده محاذ بنانے کی کوشش کی۔ چنانچہ ۱۹۱۶ع میں لکھنؤ میں دونوں سیاسی جماعتیں کا سمجھوتہ ہو گیا جو 'میثاق لکھنؤ' کے نام سے مشہور ہے۔ اس سلسلہ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے، 'جنہیں آگے چل کر اسلامی ہند کی قیادت سنبھالنی تھی، نہایت نمایاں کردار ادا کیا اور انہیں 'ہندو مسلم اتحاد کا علمبردار، کہا گیا۔

جنگ ختم ہوئی تو ترکی خلافت قریب قریب ناپید ہو چکی تھی۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان لیڈروں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طاقت نے اسلام کی بین الاقوامی قوت کو ختم کیا ہے اسے زک پہنچائی جائے۔ چنانچہ مولانا محمد علی اور ان کے ہم خیال لیڈروں نے کانگریس میں شرکت کی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اسلامی ملکوں سے برطانوی شہنشاہیت کی گرفت کچھ نہ کچھ ضرور ڈھیلی ہو گی۔ چنانچہ ۱۹۲۰ع میں کانگریس اور تحریک خلافت کے تعاون نے برطانوی استعمار سے زبردست ٹکر لی۔ مولانا محمد علی کے الفاظ میں، اس وقت ہم نے مسلمانوں کو کانگریس کی شرکت کے لئے آمادہ کیا اور ہندو اکثریت کے ساتھ مسلمان اقلیت کا اتحاد کر دیا اور انہیں اس پر راضی کیا کہ ۱۸۸۷ع میں جو سیاسی پالیسی مسلمانوں کی اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لئے سرسید احمد خان رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ہندو اکثریت کی ذہنیت سے مجبور ہو کر اختیار کی تھی، اس کو بدل دیا جائے اور ہندو اور مسلمان اکثریت اور اقلیت دونوں ملکر انگریزی اقلیت کے استبداد کا خاتمه کرے۔ اس جد و جہد میں مسلمان پیچھے نہیں رہے۔ خود مولانا محمد علی کے الفاظ ہیں "حکام پرست بے شک ہمارے ساتھ نہ تھے لیکن حکام پرست ہندو بھی گاندھی جی کے ساتھ نہ تھے اور مسلمانوں

نے اپنی سیاسی اہلیت اور استعداد سے ثابت کر دیا کہ ہندوستان کی قومی سیاست میں ان کا حصہ ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ رہے گا۔ اور ان کی قربانیوں نے بھی ثابت کر دیا کہ قوم پروری میں وہ ہندوؤں سے کم نہیں، کچھ زیادہ ہی ہیں۔ لیکن اس عظیم الشان تحریک کو گاندھی جی نے چوری چورا کے حادثے کے بعد جس میں چند ہندوستانیوں کی طرف سے تشدد بردا گیا تھا، جس ڈرامائی انداز میں دفعتاً ختم کر دیا اس کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ عین اس وقت جب کہ کانگریس اور خلافت کی عظیم تحریک نے غیر ملکی اقتدار کی بنیادیں ہلا رکھی تھیں، گاندھی جی نے ایک آن میں اس کا خاتمه کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس تحریک نے مسلمانوں کو سخت بھونچکا کیا اور آہستہ آہستہ مایوسی کے عالم میں کانگریس سے الگ ہوتے گئے۔

اسکے بعد ہندو مسلم اختلافات بڑھتے گئے اور کئی مختلف مقامات پر فسادات ہوئے۔ اس زمانے میں شدھی کی تحریک ہی نے مسلمانوں کو کانگریس سے برانگیختہ نہیں کیا بلکہ خود گاندھی جی کا مسلک ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک طرف وہ کانگریس کے سیاسی رہنماء تھے تو دوسری طرف مذہبی رہنماء بھی۔ انہوں نے ہندو مذہب کے احیا کو اپنا مسئلک بنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف ان کا فلسفہ، زندگی کانگریس پر اثر انداز ہوتا چلا گیا تو دوسری طرف غیر ہندو جماعتیں بالخصوص مسلمان کانگریس سے بدلطن ہوتے گئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آل انڈیا کانگرس کے سکریٹری نے یہاں تک کہہ دیا کہ کانگریس ”گاندھی ازم“، کا دوسرا نام ہے، مغض ایک سیاسی مسئلک نہیں، بلکہ وہ ایک لائحہ، زندگی ہے۔ جس کو کانگریس میں رہنا ہو وہ ”گاندھی ازم“، کے اصول کو مانے، اور جو اس کے لئے تیار نہ ہو اس کی جگہ کانگریس میں نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کی جگہ واقعی کانگرس میں نہ رہی۔ ۱۹۲۸ع میں نہرو رپورٹ پر بحث کرنے کے لئے کلکتہ میں جو اجتماع ہوا، اس میں قائد اعظم نے کانگرس

سے اتحاد کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور ایسی ترمیمیں پیش کیں جنہیں تسليم کرنے میں سرتیج بہادر سپرو ایسے اعتدال پسند لیڈروں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ لیکن کانگرس کی مہابھائی ذہنیت رکھنے والی قوتوں نے صلح و اتحاد کی اس دیانت دارانہ کوشش کو بھی ٹھکرایا۔ جب تمام کوششیں رائگاں گئیں تو ۱۹۳۰ع میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ ہوا جس میں علامہ اقبال نے اپنے تاریخی خطبہ صدارت میں ملک کی تقسیم کی تجویز پیش کی، جسے دس سال بعد مسلم لیگ نے اپنا نصب العین قرار دیا اور جس نے مزید سات سال بعد پاکستان کی شکل اختیار کی۔

علامہ اقبال کا یہ خیال کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی علیحدہ ایک مملکت ہونی چاہئے ۱۸۵۷ع کے بعد کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے۔ سرسید کی علی گڑھ کی تحریک کے پس منظر میں یہ تصور موجود تھا۔ دیوبند،^۶ ندوۃ العلماء، جامعہ ملیہ، کی تحریکیں اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک الگ تہذیبی وجود ہے۔ چنانچہ ۱۹۴۷ع کی جنگ آزادی کے بعد اگرچہ یہ حقیقت مختلف رخ اختیار کرتی رہی، لیکن تمام تحریکوں میں یہ قدر مشترکہ موجود رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا جو تصور پیش کیا وہ اپنی موہوم شکل میں سرسید کے ان الفاظ میں بھی نظر آتا ہے جو انہوں نے ہندی اردو جہگڑے کے سلسلہ میں کہے تھے۔ علامہ نے مخصوص اس ذہنی رجحان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جو پہلے سے ہندوستان کے مسلمانوں میں موجود چلا آرہا تھا۔ اور اس خوش آئند خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے قوم کو ملی۔

—*—

زبان

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

۱۸۵۷ع کی جنگ آزادی اپنے اثرات اور عواقب کے اعتبار سے بہت دور رس ثابت ہوئی۔ اگرچہ اس سے پہلے ۱۸۵۶ع میں سلطنت اودھ کی ضبطی نے بہت سے ارباب بصیرت کے لئے سامان عبرت بھم پہنچایا تھا۔ لیکن پھر بھی دلی کے لال قلعے میں جھلکلاتی ہوئی شمع سے بہت سے لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ تھے اور قلعہ معلیٰ کی چہار دیواری میں بھی وہ اپنے قول و فعل میں آزاد نہ تھے، لیکن بہادر شاہ اس کے باوجود سلطنت کی عظمت کی نشانی تھے اور تحریک آزادی کے محور کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں بہت تھیں۔ سیاست کی بساط پر سے ان کا انہے جانا صرف ایک کمزور مغل بادشاہ کا خاتمه نہ تھا اس کے ساتھ ایک تمذیب، ایک معاشرت اور ایک تمدن کا تصور وابستہ تھا۔ ۱۸۵۷ع کی جنگ آزادی کی ناکامی نے اس تمذیب معاشرت اور تمدن کی بنیادوں پر ایک کاری ضرب لگائی اور اس کے بعد انتقامی کارروائیوں نے لوگوں کے حوصلے پست کر دئے۔ ہمارے وہ علماء جو علم و فن کے علمبردار اور ہماری تمذیب کے مظہر تھے جہاد کے فتووں پر دستخط کرنے کے الزام میں پھانسی پر لٹکائے گئے اور شرفا کا وہ طبقہ جو ہماری روایات کا وارث اور محافظ تھا قیام اس کے نام پر باغیوں کی

مدد کرنے کے الزام میں مٹا دیا گیا۔ غرض اس قیام امن میں جو کچھ گذری وہ شاید ہولناک جنگوں میں بھی نہ گذری ہوگی۔ یہاں سے ہماری سیاست، تعلیم، تمہذیب و معاشرت، غرض زندگی کے پودے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان نئے اثرات میں سے جن کا تعلق براہ راست ہماری زبان سے ہے اس وقت میں ان کے بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

مغربی قوموں اور ان کی زبانوں کے اردو پر اثرات کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے تجارتی حیثیت سے اس سر زمین پر قدم رکھا اور قدرتی طور پر ان کے ساتھ آئی ہوئی بعض اشیا اپنے نام بھی اپنے ساتھ لائیں۔ پرتگالیوں اور فرانسیسیوں کا غلبہ وسعت اور مدت کے اعتبار سے بہت کم تھا اسلئے ان کے آثار بھی ہماری زبان میں کم ہیں۔ لیکن انگریزوں نے تجارت اور پھر سیاست میں اس طرح قدم جمائے کہ کم و بیش دوسو سال تک انہوں نے ملکی معاملات میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اور اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زبان اور بعد ازاں ان کے شعر و ادب نے اردو پر خاصاً اثر ڈالا۔ اس اثر کا باقاعدہ سلسلہ انیسویں صدی کے آغاز سے ہوتا ہے، جب کلکتہ میں کمپنی کے نووارد ملازمین کو اس ملک کی تمہذیب و معاشرت، رسم و رواج، عقائد و تصورات اور یہاں کے عوام کی گفتگو سے واقف کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور فورٹ ولیم کالج اس ضرورت کی تکمیل کے لئے قائم ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی مصنفین مثلاً میرامن وغیرہ انگریزی زبان یا ادب سے واقف نہ تھے۔ لیکن وہ گل کرائیٹ کی هدایت اور مشورے کے مطابق کام کرتے تھے۔ اور انہیں کے مشورہ سے میرامن نے 'باغ و بہار، ٹھیٹھے ہندوستانی زبان میں لکھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ روز مرہ گفتگو کی عام زبان کو ایک اہم ادبی تحریر کے لئے اختیار کیا گیا۔ اور اس طرح اردو میں پہلی سلیس اور آسان اردو نشر کی کتاب معرض وجود میں آئی۔ میرامن کے علاوہ بھی

بعض مصنفین نے اعلیٰ درجے کی کتابیں لکھیں۔ لیکن جو قبول عام اور شہرت دوام باغ و بہار کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کتاب کے حصہ میں نہیں آئی۔ اسی زمانے میں بعض انگریزوں نے اردو کی لغات، صرف و نحو کی کتابیں اردو لسانیات اور اردو زبان کی تاریخ پر بعض کتابیں لکھکر اردو کے علمی مطالعہ کا آغاز کیا۔

لیکن فورٹ ولیم کالج کا حلقوہ، اثر محدود اور اس ادارہ کے مصنفین کا مقصد مخصوص تھا۔ اس لئے ان نئے رجحانات نے اس وقت کسی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی۔ البته ۱۸۵۷ع سے کوئی پچیس تیس سال پہلے خود دلی میں ایک ایسا کالج قائم ہوا جہاں پہلی مرتبہ جدید علوم و فنون کی تعلیم مشرقی زبانوں میں دینے کا تجربہ کیا گیا۔ اور اس کے لئے انگریزی سے بعض درسی کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ ترجمہ کرنے کے لئے ایک باقاعدہ دار الترجمہ تھا، جس نے نہایت واضح اصول اور ضوابط مرتب کئے۔ مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا ایک اہم حصہ آہستہ آہستہ اردو میں منتقل ہونے لگا تھا۔ جس کے ساتھ زبان میں نئے الفاظ اور اصطلاحات کا بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن ۱۸۵۷ع کا ہنگامہ کالج اور اس کے دارالترجمہ کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔

۱۸۵۷ع کی فتح نے انگریزوں کے حوصلے بلند کردئے اور انہوں نے نہایت بے دردی سے ملکی روایات اور قومی امنگوں کو کچل ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا۔ زبان کے سلسلے میں ان کا پہلا وار یہ تھا کہ فارسی کی تہذیبی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ دفتروں، عدالتوں، تجارتی اور صنعتی اداروں میں فارسی کی جگہ انگریزی نے لی۔ جو دفتری اور عدالتی کارروائی عوام کے انگریزی سے ناپلڈ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اردو میں کی جاتی تھی، اس میں بھی آہستہ آہستہ انگریزی الفاظ داخل ہونے شروع ہوئے۔ پھر انگریزی اب حکمران طبقے کی زبان تھی۔ اس لئے انگریزی الفاظ کا استعمال مہذب ہونے کی نشانی سمجھا جانے لگا۔ اس طرح انگریزی کے جو الفاظ اردو میں آئے وہ تین طرح کے تھے۔ پہلے

وہ الفاظ جو دفتری یا عدالتی زبان سے تعلق رکھتے تھے اور جن کا استعمال خواص اور عوام دونوں کرتے تھے۔ ظاہرا یہ ایسے الفاظ تھے جو آہستہ آہستہ اردو میں گھل مل کر اردو بن گئے۔ مثلاً جج، کلکٹر، بالسٹر، (یعنی بیرسٹر)، کوٹ فیس (یعنی کورٹ فیس)، اشٹام (یعنی اسٹامپ)، نکٹ (ٹکٹ)، سمن (Summons)، ڈگری، جیل، رپٹ (رپورٹ)، پولس، کپتان (Captain)، کوٹ صاحب (یعنی Court Inspector)، ہائی کورٹ (یعنی عدالت عالیہ) اپیل (Appeal)، رنگروٹ (Recruit)، ارڈلی (Orderly)، وغیرہ۔ سینکڑوں الفاظ آج ایسے ہیں جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اور جن کی اجنبيت آج ختم ہو چکی ہے۔

دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو ہماری عام تمہذیبی اور سماجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر ان چیزوں کے نام ہیں جو انگریزوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں۔ مثلاً پہلوں میں سترہ (Cintra)، مالٹا (Malta)، موسمبی (Mosambique)۔ سبزیوں میں ٹماٹر وغیرہ۔ بسکٹ، توں اراروٹ، ڈبل روٹی، وغیرہ۔ لباس میں کوٹ، کالر پتلون، ٹائی، بٹن وغیرہ۔ غرض اس ضمن میں بھی بے شمار الفاظ ہیں جو خاص و عام کی زبان پر روان ہو گئے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کا استعمال ۱۸۵۷ء کے بعد کی تصانیف میں بھی ملتا ہے۔ الفاظ کا تیسرا اور نہایت اہم ذخیرہ ادبی، علمی اور فنی الفاظ کا ہے جن کا سلسلہ تو دلی کالج سے شروع ہوتا ہے لیکن جن میں ۱۸۵۷ء کے بعد ہی خصوصیت کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سرسید احمد خاں کی تحریک کا ذکر کرنا چاہئے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد یہ سب سے پہلی تعمیری تحریک تھی جو اس برعظیم میں شروع ہوئی، بعض لوگ سرسید کو انگریزوں کا آله، کار سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ سرسید کے پیش نظر مسلمانوں کی بالخصوص اور اہل ہند کی بالعموم اصلاح تھی اور ان کا یہ خلوص ان کی تمام تحریروں میں جھلکتا ہے۔ یہ درست

ہے کہ وہ انگریز اور انگریزی کے ساتھ تعاون کے علمبردار ہیں لیکن ۱۸۵۷ء کے فوراً بعد سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ انگریزوں اور مسلمانوں میں جو رختہ پڑ گیا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمان خصوصیت کے ساتھ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے بعد منتقمانہ کارروائیوں کا شکار ہو رہے تھے اس کے روکنے کی صرف ایک یہی صورت تھی۔ دونوں کو قریب تر لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ انگریزوں اور انگریزی کے خیالات اور تصورات کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک اخبار اور ایک رسالہ نکلا یہ اخبار ان کی قائم کردہ ”سائنسیک سوسائیٹی“، کا ترجمان تھا اور لوہے کے چھاپے میں چھپتا تھا۔ اس کا ایک حصہ انگریزی میں اور دوسرا اردو میں ہوتا تھا۔ معلوماتی مضامین علمی تجربات، سیر و سیاحت کے حالات غیر ملکوں کی خبریں ایجادات اور انکشافات کی اطلاعات عام طور پر اس اخبار میں شائع ہوتی تھیں۔ لیکن اخبار سے زیادہ مشہور اور اہم ان کا رسالہ ”تمہذیب الاخلاق“، تھا جو انگریزی جرائد اسپیکٹر اور ٹیٹلر کے انداز پر نکلا گیا تھا۔ اس میں ایڈیشن اور اسٹیل کے لکھے ہوئے مضامین کا ترجمہ ہوتا تھا۔ سرسید اور ان کے دوسرے مضامون نگار بھی اسی قسم کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی زبان پر قدرتی طور پر بہت سے انگریزی الفاظ آجائے تھے، مثلاً سرسید کے صرف ۹۱ منتخب مضامین میں یہ الفاظ موجود ہیں :-

یونیورسٹی، ڈگری، بی اے، ایم اے، ماسٹر، سوسائیٹی،
کالج، لکچر، سوشل، سر، مسٹر، پروفیسر، سائینس،
ٹیکنیکل ایجوکیشن، گورنمنٹ، ڈاکٹر، ڈاکٹری،
انجنیئر، سائینس، آرٹیکل، پارلی منٹ، آنریبل محبر،
ھاؤس آف کامنز، نیچر، رومن کیتھلک، پروٹسٹنٹ،
نیشنل لا، تھرما میٹر، بگل، سولزیشن، ٹیست (Taste)،
گورنر جنرل، کونسل، ووٹ، آئر لینڈ، پیٹریاٹزم،
سو لائزڈ، ان سولائزڈ، سلف، آئر، اگریسو۔

سرسید کے دوسرے مضامین اور مقالات کا جائزہ لیا جائے

تو یہ فہرست اور طویل کی جاسکتی ہے ۔

سرسید کے بعد حالی کو لیجئے ۔ سرسید نے تو انگلستان کی سیر کی تھی وہاں کی یونیورسٹیوں کا بغور مطالعہ کیا تھا اور خود اسی قسم کی یونیورسٹی یہاں قائم کرنا چاہتے تھے ۔ سرکاری ملازمت کی مدت میں بھی انہیں انگریزوں سے ملنے کا موقع ملتا تھا ۔ حالی ییچارے کو انگریزی سے براہ راست واقف ہونے کا موقع نہ تھا لیکن زمانے کا رجحان دیکھئے کہ سرسید کے معاصرین میں سب سے زیادہ انگریزی الفاظ حالی کے یہاں ہی ملتے ہیں ۔ مثلاً مضامین کے ایک مختصر مجموعے میں کم از کم اتنے الفاظ موجود ہیں :

گاس (یعنی gas) او کسیجن، ہائیڈروجن، ہومر، فیٹا غورس کیمبس، اتهوپیا، لوشین، ال ال ڈی، کارسپانڈنٹ، آرٹیکل، پلین-ٹیبل، لٹریچر، سوپر نیچرل، نیچرل “Impossible is nothing” نیچرل، ان نیچرل، ڈکشنری، پالیسی، رفارمر، کرستان، کمیٹی، لارڈ لوٹھر، پوب، ہائی ایجو کیشن، سولیزیشن اوریٹر، ڈاکٹر، پولیٹیکل، لمپ، ممبر، پریکٹیکل، گریجویٹ، سلف، سولائیڈ، ہاف سولائیڈ، ایجو کیشن، بورڈنگ ہاؤس، جنیوا، پولیٹیکل ایجنت اسپیچ، ریویو، ریویو نگار، پیلک، جیو گرفی، رومن لا، فلوز فی، میونسپل کمیٹی، سوسائیٹی، کیمبرج، فزیکل سائنس، سلف ہلپ کانشنس، مشنری پریچنگ، سوشل، لائلٹی، لائف، ایسے، ایجو کیٹیڈ، لا آف نیچر، جنرل انفارمیشن، بیو گریفی، ریمارک، اوریجنل وغیرہ ۔

کم و بیش پچھتر (۵۰) الفاظ تقریباً ۲۵ صفحات میں استعمال ہوئے ہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوس مطابق ہر صفحہ میں چار انگریزی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ حالی کے دیگر معاصرین میں اس کی اتنی کثرت نہیں مثلاً حالی کے بعد مولانا شبی کا نمبر ہے لیکن وہ انگریزی الفاظ استعمال کرتے وقت ان کے مترادفات بھی دیتے ہیں ۔ اس کے بعد آزاد اور پھر

مولوی نذیر احمد آتے ہیں - غرض ان لوگوں کی بدولت انگریزی کے بے شمار الفاظ علمی اور ادبی اردو زبان میں داخل اور روان ہو گئے - لیکن یہ تمام الفاظ صرف اجنبی لغات کی حیثیت سے اردو میں شامل نہیں ہوئے بلکہ اپنے ساتھ نئے تصورات نظریات اور نئی تشریحات لے کر آئے - ان کے پردازے میں ایک نئی تمذیب ایک مختلف معاشرت ایک نئے ادب اور انشاء کی جھلک بھی موجود تھی - سرسید اور حالی دونوں کے یہاں ایسے الفاظ کی کثرت ہے جن کا تعلق بقول ان کے سوشل امور سے ہے - اسکا مطلب یہ ہوا کہ سماج کے مغربی تصورات اور نظریات ان کی تحریروں کے خاص موضوعات تھے - مغربی مصنفین، مفکرین، شعرا ادیبوں سیاسی کارکنوں صحافیوں اخبار نویسوں اور مصنفوں کے نام جو ابھی آپ نے اس فہرست میں سنے، نئے خیالات اور تصورات کا سرچشمہ ہیں اور یہ تمام خیالات جن کا تعلق اصلاح معاشرت اصلاح زبان اور اصلاح ادب سے ہے، اردو میں سرسید اور ان کے رفقائے کارکی بدولت ہی رائج ہوئے -

ظاہر ہے مغرب سے مضامین اور خیالات ترجمہ کرنے میں ارادی اور غیر ارادی طور پر یہ تمام مصنفین بعض نئی اصناف اور شعری و ادبی پیمانوں سے آشنا اور متاثر ہوئے مثلاً "ایسے"، اور "آرٹیکل"، جیسے مغربی رسالوں اور اخباروں میں ہوتے تھے - ان کا ایک خاص انداز تھا، جو اردو کے مضامین سے مختلف تھا - ان نئی اصناف کے لئے ظاہر ہے اردو کا کوئی موزوں لفظ اس وقت تلاش کرنا مشکل تھا - اگرچہ آج بھی ہم صحفات میں اڈیٹر، کالم، نوٹ، کارٹون اور بہت سے انگریزی الفاظ استعمال کرتے ہیں ، لیکن اب بعض پرانے اردو الفاظ بھی ان مطالب کے لئے ادا ہونے لگے ہیں - مثلاً "ایسے" ، کے لئے مضامون یا مقالہ، ایڈیٹر کے لئے مدیر، لیڈنگ آرٹیکل کے لئے مقالہ، افتتاحیہ وغیرہ -

مغربی مصنفین کے ناموں اور ان کے کاموں کے ساتھ ساتھ اس دور میں اردو مغربی زبانوں خاص طور پر انگریزی کے طرز ادا

سے بھی متاثر ہوئی۔ سرسید نے اڈیسن اور اسٹیل کے جن مضامین کا ترجمہ کیا ظاہر ہے ان کی بدولت اڈیسن اور اسٹیل کے طرز کی کچھ نہ کچھ جھلک ہماری زبان میں بھی آگئی ہو گئی۔ اس طرز کی سب سے نمایاں خصوصیت مقصد نگاری سادگی اور صاف گوئی ہے۔ یہ سادگی میرامن کی باغ و بہار کی سادگی سے مختلف ہے۔ میرامن کی زبان صاف و سادہ، دلی کی با محاورہ اور مستند زبان سہی، لیکن خود بقول ان کے عوام کی روزمرہ کی ٹھیکیوں گفتگو ہے۔ اس لئے اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ علمی انداز بن سکے۔ سرسید اور حالی کی تحریروں میں سادگی کے ساتھ متنانت سنجیدگی اور ایک علمی وزن و وقار پایا جاتا ہے۔ اس طرز کی مقبولیت نے زبانوں کو جو رجب علی ییگ سرور اور ان کے ہمنگ انشا پردازوں کی رنگین بیانی کے عادی ہوچکے تھے، سادگی اور دلنشیں کے طرز سے آشنا کرایا۔ سرسید کے "تمذیب الاخلاق" سے سر عبدالقادر کے "مخزن" تک اسی تحریک کی بدولت نئے مضامین اور نیا طرز سارے ملک میں پھیلا اور یہ ممکن ہوا کہ اردو نثر، جس کا سرمایہ سرسید سے پہلے کی چند مذہبی طرز کی تصانیف یا قصے کہانیوں پر مشتمل تھا، اس قابل ہو گئی کہ اس میں دنیا کے تمام جدید علوم و فنون پر مضامین، مقالے اور کتابیں لکھی جاسکیں۔

۱۸۵۷ع پر پوری ایک صدی بھی نہیں گزرنے پائی تھی کہ انگریزوں کو اس ملک سے رخصت ہو جانا پڑا اور پاکستان و ہندوستان نے سیاسی آزادی حاصل کرلی۔ برطانوی اقتدار کے اثرات ہماری سیاسی اور سماجی زندگی میں آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں اور شاید آئندہ نسل تک یہ نقوش نہایت دھندرے رہ جائیں گے۔ لیکن ہماری زبان نے جو نئے اثرات قبول کئے ہیں ان کے نتائج اور عواقب نہایت دور رس ثابت ہوں گے۔ انگریزی سے نئے الفاظ کا داخلہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔

لیکن اردو کو انگریزی کی جگہ لینے کے لئے انگریزی سے بہت کچھ لینا پڑے گا۔ اصطلاحات کے ترجمے ہونگے درسی

کتابوں کے ترجمے ہوں گے۔ دفتری اور عدالتی زبان میں نئی اصطلاحیں بنائی جائیں گی۔ جدید علوم و فنون کی زبانیں جو آج دنیا کے مختلف علاقوں میں لکھی جارہی ہیں انگریزی کے ذریعے سے ہم تک پہنچیں گی اور پھر ان کے مضامین اور خیالات کا ترجمہ ہوگا اور اس طرح ہماری زبان اپنی ترقی کے امکانات کو حقائق میں بدل سکیں گی۔

--*--

ادب

سید عابد علی عابد

۱۸۵۷ع کا ہنگامہ جسے انگریز مورخ غدر کہہ کر پکارتے ہیں کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے انگریزوں نے ہندوستان پر پاؤں جمائے تھے اسی دن سے تحریک آزادی کی چنگاریاں بھی سلگنے لگی تھیں۔ مسلمانوں کے دل سے طبعاً اغیار کی حکومت کے بخلاف جذبے کا رنگ چوکھا تھا۔ کیونکہ انگریزوں نے انہی کی عظمت کے خوابوں پر اپنی بنائے مملکت استوار کی تھی۔ بہر حال ۱۸۵۷ع زندگی پر گھرے اور دیر پا اثرات پیدا کر کے رفع ہو گیا جن دنوں تحریک آزادی عروج پر تھی، انہی دنوں انگریز مدبروں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے رہے سے اقتدار کو ملیامیٹ نہیں کر دیا جائے گا انگریزی حکومت کی بنیادیں استوار نہیں ہوں گی۔

تحریک آزادی کے فرو ہونے کے بعد انگریزوں کی نئی حکمت عملی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ مسلمان امیروں اور جاگیرداروں کی ریاستیں ختم کر دی گئیں۔ مسلمانوں کو چن چن کر تہ تیغ کیا گیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی آخری علامت یعنی بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا، اور صحیح معنی میں برعظیم ہند و پاکستان میں فرنگی عملداری قائم ہو گئی۔ مسلمانوں کے لئے یہ بڑا نازک مقام تھا۔ ایک تو یہ

کہ وہ سیاسی طور پر کچلے جا رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ اقتصادی طور پر بھی ان کو بے حال بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ اسوقت سرسید احمد خاں نے ہندوستانی مسلمانوں کی ایسے اسلوب سے رہنمائی کی کہ باید و شاید۔ سرسید نے بجا طور پر محسوس کر لیا تھا کہ اغیار اس موقع پر ہر اس تحریک کو سختی سے کچل دیں گے جس میں کسی سیاسی عنصر کی آمیزش ہو یا جو مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس لئے سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کے بچے کھجڑے ذوق عمل کا رخ موز کر ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی جس سے حیرت انگیز اثرات رونما ہونے والے تھے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ اغیار ہی کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر حملہ کیا جائے اور اس حملے کی رفتار ایسی ہو کہ جب تک کاری اور سہلک ضرب لگانے کا مقام نہ آئے اس وقت تک اغیار خطرے کی نوعیت سے بالکل باخبر نہ ہونے پائیں۔

سرسید احمد خاں نے اس حملے کے مقدمات یہ قرار دئے :

(۱) مسلمانوں کو انگریزی تعلیم اور انگریزی علوم و فنون سے باخبر کیا جائے تاکہ وہ مغرب کے بڑھتے ہوئے سیلاں کو کامیابی سے روک سکیں۔

(۲) مسلمانوں کے دل میں اپنی تمدنی اور ثقافتی عظمت کا احساس پیدا کیا جائے تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی جرأت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کوشان ہوں۔

(۳) تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو آہستہ آہستہ ایسی ارتقا یافته شکل دی جائے کہ وہ اغیار کی حکومت کا جوا آہستہ آہستہ اپنے کندھوں سے اتار پہینکیں۔

سرسید احمد خاں نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے طبعاً ادب کا وسیلہ ڈھونڈا اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیا جو ہر طرح ان کے محرم راز تھے۔ انہیں لوگوں نے تخلیقات ادب کے ذریعے آہستہ آہستہ وہ چنگاریاں

سلگائیں جن کو شعلے بنکر برعظیم هند پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ سرسید احمد خان کا منصوبہ کتنا منظم تھا، اسکا اندازہ صرف اسی سے ہو سکتا ہے کہ آزادی کی جد و جہد کے اب تک جتنے چشمے پھوٹے ہیں ان کا مأخذ و منبع انہی لوگوں کی تحریریں تھیں جو سرسید کے رفقائے کار تھے۔ ذرا غور کیجئے گا۔ مذہب کے معاملے میں تنگ نظری رفع کرنے کے لئے خود سرسید نے قرآن مجید کی ایک نئی تفسیر لکھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے مخالفتیں بھی برداشت کیں، ان کے خلاف کفر کے فتوے بھی صادر ہوئے، لیکن وہ برابر اپنے کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ اکابر الہآبادی کو بھی جو ان کے شدید ترین مخالفوں میں سے تھے کہنا پڑا:

دل ترا جس سے بہلتا کوئی ایسا نہ ملا
بت کے بندے ملے اللہ کا بندہ نہ ملا
سید اٹھے جو گزٹ لیکے تو لاکھوں لائے
شیخ قرآن دکھاتے پھرے پیسہ نہ ملا

سرسید کے رفقا سے جس شخص نے سب سے زیادہ بے لوٹی سے مسلمانوں کی خدمت کی اور سرسید کی تحریک کو پروان چڑھانے میں اعانت کی اسے تاریخ حالی کمہ کر یاد کرتی ہے۔ حالی کی نشری اور شعری تخلیقات کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ وہ قوم کو ایک نئے حملے کے لئے تیار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حملے سے مراد یہ تھی کہ ۱۸۵۷ع کی چنگاریوں کو پھر سلگایا جائے تاکہ آخر کار مسلمان اغیار کی حکومت سے نجات حاصل کر کے اپنی تمدنی اور سیاسی میراث کو دوبارہ حاصل کرسکیں۔ مسدس میں اس مقصد کے حاصل کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کا اسلوب، انداز بیان، زاویہ، نظر، مطالب و معانی، ترتیب، سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اگرچہ حالی انگریزی حکومت کی برکتوں کے گن بھی گلتے تھے اور یہی مصلحت تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تلقین بھی کرتے تھے کہ ان

برکتوں سے ٹھیک طریقے پر بہرہ یاب بھی ہوں۔ جمہوریت کے اصولوں کے مطابق سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی غالباً اردو میں یہ پہلی منظم کوشش تھی اور اس میں حالی کا طریقہ پیچدار تھا۔ رفتہ رفتہ حالی نے اقبال کی ہنگامہ آرائی کے لئے فضا ہموار کی۔ حالی کی بعض سیاسی نظمیں اور جدید غزلوں کے بعض اشعار نہایت معنی خیز ہیں مثلاً :

صلح ہے یا مہلت سامان جنگ
کرتے ہیں بھرنے کو خالی یاں تفنگ
کبک و قمری میں یہ جھگڑا ہے چمن کسکا ہے
کل خزان آکے بتادے گی وطن کس کا ہے

ڈاکٹری معائنوں کے سلسلے میں کالے اور گورے کے فرق پر جو انہوں نے مختصر سی نظم لکھی ہے، بہت معنی خیز ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اقبال نے مغرب کی تہذیب کو مغربی افکار سے مسلح ہو کر جس طرح غارت کرنے کی کوشش کی ہے، حقیقت میں وہ حالی ہی کا فیضان ہے۔ حالی کے شریک کار ادیبوں میں شمسالعلما مولانا حافظ نذیر احمد بھی تھے۔ جو ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ جنگ آزادی کی ناکام تحریک کے بعد جب سرسید احمد نے مسلمانوں کے تمدنی اور تعلیمی احیا کا بیڑا اٹھایا تو نذیر احمد نے غالباً سب سے زیادہ ان کا ہاتھ بٹایا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی قوم صحیح معنی میں اس ڈقت تک تمدنی اور سیاسی سوجہ بوجہ کی حامل نہیں ہوسکتی جب تک اس قوم کی عورتیں تعلیم یافتہ اور مہذب نہ ہوں۔ نذیر احمد نے اپنے افسانوں، ناولوں اور تحریروں کے ذریعے عورتوں کو یہ ترغیب دلائی کہ وہ تعلیم و تربیت سے بہرہ یاب ہوں۔ اور ان نونہالوں کو اپنی آغوش شفقت میں پروان چڑھائیں، جنہیں ایک نئی جنگ آزادی میں حصہ لینا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو عورتوں کی تربیت کا کتنا خیال تھا اسکا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ 'توبۃ النصوح'، میں انہوں نے عورتوں کی کردار کشی

میں نہ صرف احتیاط اور چاپک دستی سے کام لیا ہے بلکہ ان کو مردوں کی اصلاح پر مقرر کیا۔ غالباً ان کی کتاب ”امہات الامہ“، بھی عورتوں میں اپنے صحیح مقام کا شعور پیدا کرنے کی جو کوششیں انہوں نے کی تھیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جنگ آزادی ۱۸۵۷ع کے بعد مسلمانوں کے استیصال کی جو منظم کوشش کی گئی تھی اس کو ناکام بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی گذشتہ عظمت یاد دلائی جائے تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کن کن انقلابات سے گذر کر کن کن مقامات تک پہنچے۔ اسی بات کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ یقین پیدا کیا جائے کہ ان کے علمی اور فنی ادارے اپنے زمانے کے اعتبار سے مغرب کے اداروں سے کسی طرح کم نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی معلومات حاصل ہونے سے ہمارے دل میں بجا طور پر یہ خیال آتا ہے کہ ہم تمذیب مغرب کے محتاج نہیں ہیں اور ہم نے بھی مملکت داری اور جهانبانی کے اصولوں کو سمجھا اور برداشت کی۔ سرسید کی نگرانی میں یہ کام شبی نعمانی نے انجام دیا ان کی تصانیف ”المامون“، ”الفاروق“، اور ان کے مختلف مضامین جو ”رسائل شبی“، کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں، سب کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تمدنی میراث کی ہمہ گیری سے آگاہ کیا جائے۔ سچ پوچھئے تو ان کی کتاب ”سیرت النبی“، بھی جنگ آزادی کی تحریک کا رد عمل تھی۔ ۱۸۵۷ع کے بعد انگریزی عملداری قائم ہو جانے سے جو دور رس نتائج پیدا ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگ مذہب سے بیگانہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس بیگانگی کے پیدا کرنے میں ان مورخوں اور پادریوں کی تحریروں کا بہت حصہ تھا جو رسول اقدس کی زندگی کے واقعات کو مسخ کر کے پیش کرتے تھے۔ ”سیرت النبی“، ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب دینے کی کوشش ہے جو غیروں نے اسلام کے پیغمبر اور اسلامی نظام حیات پر کئے تھے۔

سرسید کے دور ہی میں اکبر نے اپنا جہاد اکبر شروع کر دیا تھا۔ اس کا کلام گویا حالی اور اقبال کے کلام کے درمیان نہایت اہم درمیانی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے اکبر کو سرسید سے اختلاف تھا۔ یہ اختلاف حصول مقصد سے نہ تھا، طریق کار میں تھا اور کچھ یہ بھی تھا کہ اکبر نے سرسید کی تحریک کی غائب سمجھنے میں مجتهدانہ غلطی کی۔ بہرحال مسلمانوں کے سیاسی اور تمدنی شعور کے احیاء میں اکبر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی بغاوت مغربی تہذیب، تمدن، تعلیم اور یہاں تک کہ سائنس کے خلاف بھی تھی۔ یوں ان کے کلام میں افراط کی ناہمواری پائی جاتی ہے لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مغرب کے قائم کردہ تہذیبی، تربیتی اور علمی اداروں کے نمائش کو کھول کھول کے بیان کیا اور یوں ہمارے دل میں احساس پیدا کیا کہ جس چیز پر ہم دیوانہ وار مر مٹھے ہیں وہ اتنی والہانہ شیفتگی کی سزاوار نہیں۔ ان کی نظم ”دھلی دربار“، نہایت معنی خیز سیاسی اشاروں پر مشتمل ہے۔ یہ بند سنٹرے گا:

اوج بخت ملاقی ان کا چرخ هفت طباقی ان کا
محفل ان کی ساقی ان کا آنکھیں میری باقی ان کا

”برق کلیسا“، میں انہوں نے جس لطافت اور خوبی سے اس قیمت کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کو حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے میں ادا کرنی پڑی، اسکی نظیر اردو ادب میں ملنی مشکل ہے۔ ”برق کلیسا“، تہذیب فرنگ ہے کہ مسلمان سے ذوق عمل، سیاسی شعور، جہاد کی تمنا، ایمان کا احساس، چھین لینا چاہتی ہے اور اس کے بدلے کچھ دولت دنیوی اور کچھ اعزاز منصبی عطا کرتی ہے۔ ”برق کلیسا“، کہتی ہے۔

غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے
بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے
لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نمازی بن کر
حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بنکر

بیچارہ مسلمان کہتا ہے :

جوہر تیغ مجاهد ترے ابرو په نشار
نور ایمان کا ترے آئینہ رو پہ نشار
میرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو
ہنس کے بولی کہ تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو

حالی اور اکبر کے بعد اقبال نے مسلمانوں کو ایک نئی جنگ آزادی کے لئے تیار کرنے کے لئے اپنی تمام شعری استعداد اور اپنی غیر معمولی ذہانت کو اس طرح صرف کیا کہ اس کا کلام اس ذہنی بیداری کی عالمت بن کر رہ گیا جس کے پیدا کرنے میں حالی اور سرسید نے اتنا نمایاں حصہ لیا تھا۔ صحیح یہ ہے کہ اقبال بھی اسی شعری تحریک کی پیداوار ہے جو ۱۸۵۷ع کے بعد شروع ہوئی تھی لیکن اس کا اسلوب اپنے پیش روؤں سے مختلف ہے۔ اقبال کے پیشو و ہمارے ذہنوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اور تمذیب مغرب کے مقابلے میں مشرق تمدن کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال ایسا بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ مغرب کے تمام علوم و فنون سے مسلح ہو کر مغرب کے فلسفے اور منطق کی تمام موشگفیوں سے کام لے کر مغربی تمذیب کے تمام نکات سے باخبر ہو کر تمذیب مغرب پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے کہ یہ بت سنگین پاش پاش ہو کر گر پڑتا ہے ”ضرب کلیم“، کا ذیلی عنوان ہے کہ ”اعلان جنگ عصر حاضر کے خلاف“، اور ظاهر ہے کہ عصر حاضر، تمذیب فرنگ کا عصر ہے۔ فرنگی سامراج کا دور ہے۔ وہ صرف یہی نہیں کرتا بلکہ تحریر اور تقریر کے ذریعے مسلمانوں کے لئے ایک خطے کا مطالبہ کرتا ہے جہاں وہ اپنے ملی اور قومی خصائص کو برقرار رکھ سکیں اور اقتصادی طور پر پروان چڑھ سکیں۔ اقبال ہی نے آخری دور میں ہمارے ذہن کے تمام جالوں کو صاف کیا۔ مشرق میں جو زندگی کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں ان کو ہوا دی۔ ہمیں اپنی تمدنی میراث کی عظمت سے بخوبی با خبر کیا اور آہستہ آہستہ ہمیں ایسے مقام

پر لے آیا جہاں ۱۸۵۷ع کی جنگ آزادی کی تحریک مطالبه، پاکستان کی شکل اختیار کر گئی ”ضرب کایم“، میں وہ کہتا ہے:

سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب
کھول کر کھئے تو کرتا ہے بیان کوتاہی

دین خیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ
دیکھتے ہیں فقط اک فلسفة روباہی

اقبال کی مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی رفتار میں خود اپنے گمراہ امام اور شیوخ حائل ہیں۔ قیادت کا وہ بھی قائل ہے امامت کی حقیقت کا وہ بھی معترف ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی باگ ڈور اس نازک دور میں اس شخص کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے جو استون کے امراض سے باخبر ہو اور ان کے علاج پر قادر ہو۔ یہ کام اس ملا کا نہیں جو بحث و جدل کو منصب حیات تصور کرتا ہے۔ اس شیخ کا نہیں جو خانقاہوں میں قوالی کی محفلوں کو حاصل زیست سمجھتا ہے۔ اس مدرس کا نہیں جو شاہیں بچوں کو خاک بازی کا درس دیتا ہے۔ بلکہ اس مرد قلندر کا ہے جو سلطان جابر کے حضور میں نعروہ حق بلند کرتا ہے، کہ اس سے بڑا جہاد تصور میں نہیں آسکتا۔ اقبال نے اپنی مختصر نظم ”کرامات“، میں ان تمام تحریکوں کو سہل کر دیا ہے جو سلاطین وقت کی پرستاری سکھاتی ہیں اور امام وقت اسی کو تسلیم کیا ہے جو آبرو کی موت کو غلامی کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے:

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے
حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے

ہے وہی تیرے زمانے کا امام بر حق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

موت کے آئینے میں تجهکوڈ کھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے

دے کے احساس زیان تیرا لہو گرمادے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

فتنه^۱ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

سب جانتے ہیں کہ است سلمہ کو برعظیم ہند و پاکستان
میں ایسا ایمان اور ایسا قائد—قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم
و مغفور کی صورت میں نصیب ہوا، جس کی ذات گرامی مسلمانوں کی
ہر جنگ آزادی کی ایک دلنشیں علامت بنکر رہ گئی تھی۔
۱۸۵۷ع سے لیکر ۱۹۳۰ع تک ادب اور ادبی تخلیقات جس
مرد قلندر کے ظہور کی نوید دے رہی تھیں آخر اس کا کوکب
اقبال طلوع ہوا اور حریفوں کے تمام ستارے ماند پڑ گئے۔ اقبال
کو مرنے سے پہلے بہ تحقیق معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمان جس
نازک دور سے گذر رہے ہیں اس میں ان کی راہنمائی خدا نے
ایسی ذات گرامی کے ذمے کر دی ہے جو نہ طوفان سے گھبرا تا
ہے اور نہ خدا کے سوا کسی اور طاقت کے سامنے سرجھ کاتا ہے۔
”اریغان حیجاز“، کی بعض نظموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال نے اس
آنے والے انقلاب کو دیکھ لیا تھا جس کی طرف مسلمان تیزی
سے بڑھے جا رہے تھے۔ وہ باخبر تھا کہ مغرب میں جو کچھ
ہورہا ہے مشرق پر اس کے نتائج ضرور برآمد ہوں گے اور برعظیم
ہند و پاکستان بھی اس انقلاب سے ضرور متاثر ہو گا جو ایک
دوسری جنگ عظیم کے بعد برپا ہو گا۔ یہاں تک کہ ہمالہ کے
چشمے بھی ابلتے لگیں گے۔ اقبال کہتا ہے :

د گرگوں جہاں ان کے زور عمل سے
بڑے معركے زندہ قوموں نے مارے

منجم کی تقویم فردا ہے باطل
گرے آسمان سے پرانے ستارے

ضمیر جہاں اسقدر آتشیں ہے
کہ دریا کی موجودوں سے ٹوٹے ستارے

زمیں کو فراغت نہیں زلزلوں سے
نمایاں ہیں فطرت کے باریک اشارے

ہمالہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک
حضر سوچتا ہے ”ولو، کے کنارے

- * -

دہلی کے اخبارات

(خلیل الرحمن داؤدی)

”گئی یک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے
کروں اس ستم کا میں کیا بیان مرا سینہ غم سے فگار ہے
نہ تھا شہر دہلی یہ تھا چمن کہو کس طرح کا تھا یا ان
جو خطاب تھا وہ مٹادیا فقط اب تو اجڑا دیار ہے
شب و روز پہولوں میں جو تلے کہو خار غم کو وہ کیا سہرے
سلے طوق قید میں جب انہیں کہا گل کے بدلتے یہ ہار ہے
یہ کسی نے ظلم بھی ہے سنا کہ دی پہانسی لا کہوں کو بیگناہ
ولے کلمہ گویوں کی سمت سے ابھی دل میں ان کے غبار ہے
یہ رعایا هند تبہ ہوئی کہو کیسی ان پہ جفا ہوئی
جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی قابل دار ہے،“

یہ سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار، بہادر شاہ ظفر کا کلام
 بتایا جاتا ہے جو ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں شکست کھانے
 کے بعد دہلی کی حالت زار پر کہا گیا۔ یون تو اورنگزیب
 کی وفات ۱۸۰۷ء کے بعد ہی سلطنت مغلیہ کا زوال شروع
 ہو گیا تھا، لیکن ۱۸۵۷ء سال تک اس کی رفتار دھیمی رہی۔
 کی جنگ پلاسی انگریزوں اور ہندوستانیوں کے مابین ایک فیصلہ

* لیکن در اصل دلی کے ایک غیر معروف، ناخواندہ شاعر ”حسامی“،
 کا کلام ہے

کن جنگ تھی۔ اس کے بعد دہلی کی سلطنت صرف دارالخلافہ کے نواح تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی اور انگریزوں کا اثر و اقتدار تمام ملک پر اپنا تسلط جما رہا تھا۔ گو سلطنت مغلیہ برائے نام تھی لیکن برصغیر پاک و ہند میں میسور، روہیلوں اور مرہٹوں کی طاقتیں ایسی ضرور تھیں جنہوں نے ایک عرصہ تک فرنگیوں کو زحمت پنجھ آزمائی دی۔ فرنگیوں کی خوش بختی سے یہاں کا باہمی افتراء ان کی فتح و کامرانی کے لئے سازگار ثابت ہوا۔ جوں جوں انگریزوں کے قدم جمٹے جاتے تھے اس برصغیر کے باشندوں کے دل ان کی طرف سے متفر ہوتے جاتے تھے۔ انگریزوں کی تبلیغی جماعتیں نہایت آزادی سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ ان کے قوانین ہمارے مذہبی احکامات سے ٹکراتے تھے۔ ان کی ہوس ملک گیری یہاں کی تمام آزاد ریاستوں کو یکرے بعد دیگرے ہڑپ کر رہی تھیں۔ فوج میں یہاں کے باشندوں کے ساتھ ان کے استیازی سلوک سے فوجیوں کے دل آتشیں غیظ سے کباب ہو رہے تھے۔ چنانچہ پیلک کو اس کا یقین ہو گیا تھا کہ وطن کے جانے کے ساتھ دین و ایمان کی بھی خیر نہیں۔ انگریزوں کے خلاف یہ جذبہ، نفرت و عناد ۱۸۵۷ع کی جنگ پلاسی سے پیدا ہوا اور تقریباً سو سال تک یہاں کے عوام کے دلوں میں اپنا گھر کئے رہا۔ عوام موقع کے منتظر تھے۔ چنانچہ ٹھیک ۱۸۵۷ سال بعد ۱۸۵۷ع میں اس برصغیر کے باشندے کفن سر سے باندھے، جان ہتھیلی پر لئے، حریت وطن اور حریت دین کی خاطر میدان میں اتر آئے۔

۱۰ مئی ۱۸۵۷ع کو میرٹھ چھاؤنی سے فوجیوں نے انگریزوں کے خلاف نعرہ جہاد بلند کیا۔ اہالیان دہلی نے لبیک کہا اور آن کی آن میں یہ آگ تمام ہندوستان میں پھیل گئی۔ میرٹھ، دہلی، جہانسی، کانپور اور لکھنؤ جو کہ فرنگیوں کے فوجی مرکز تھے، اس جنگ آزادی کے بھی مرکز خصوصی ہو کر رہ گئے۔ سلطنت مغلیہ کا چراغ عرصہ دراز سے ٹمٹما رہا تھا۔ لیکن پھر بھی دہلی کو پایہ تخت اسلامی ہونے کی وجہ سے مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس لئے

جنگ آزادی کا بھی سب سے زیادہ زور اسی با نصیب شہر کو جھیلنا پڑا۔ ۷۵ع کی جنگ آزادی کوئی ایسا واقعہ نہ تھا جو دفعتاً رونما ہو گیا ہو۔ اس کے پس منظر میں انگریزوں کی ہوس ملک گیری، ان کی سازشیں، نوابوں اور راجاؤں کے ساتھ ان کی عیاریاں اور مسیحیوں، کی تبلیغی سرگرمیاں اور نئے آئین و دستور تھے۔ یہ کہئے کہ فرنگیوں کے خلاف عوام کے دلوں میں نفرت و حقارت کا لاوا ایک عرصہ سے پک رہا تھا۔ منه کھلنے کی دیر تھی۔ چنانچہ ۷۵ع میں اس کی نوبت بھی آہی گئی۔ اس لئے جنگ آزادی سے متعلق وقتی چیزیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں بلکہ اس کا صحیح جائزہ لینے کے لئے اس سے کم از کم چند ماہ پیشتر کی اطلاعات بھی ملحوظ رکھنی ہونگیں۔ ۷۵ع کی جنگ آزادی سے پہلے دلی کے اخباروں میں ضرور بہت کچھ شائع ہوا ہو گا جسے ہم اسباب کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ ناممکن ہے کہ ۷۵ع یا اس کے بعد کوئی اخبار بھی یہ جرأت کر سکا ہو کہ جنگ آزادی یا انگریزوں کے خلاف کچھ لکھ سکے۔

انگریزوں کو اپنے متعلق عوام کی بذنی کا اچھی طرح علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خاں نے ”اسباب بغوات ہند“، میں نہایت مدلل پیرایہ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ انقلاب کسی وقتی سازش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اس کی ذمہ داری خود فرنگیوں پر عاید ہوتی ہے۔ موصوف نے اپنی کتاب میں ایک اشتہار بھی حکومت بنگال کی طرف سے جاری کردہ نقل کیا ہے جس میں حکومت نے عوام کو اس قسم کی بے چینیوں کی طرف سے اطمینان دلایا تھا۔ اس کے چند جملے ملاحظہ فرمائیے :

”بالفعل از طرف سرکار آن چنان قوانین جاری شدندی ست کہ ازان رسم تعزیہ داری و مراسم ختنہ و پرده نشینی زنان وغیرہ احکامات شرع و شاستر برافتند و یکسر موقف گردد حالانکہ این ہم غلط است وافتراۓ محض۔ سرکار بہادر را در راه و رسم و کیش و مذهب کدامی کس دست اندازی منظور نیست بلکہ

اين معنى برخلاف طريقة رعيت پوري کہ سجیہ مرضیہ سرکار
بہادرست بوده است، -

بر صغیر پاک و هند میں اخبارات کا یہ پہلا دور تھا بلکہ
یوں کہئے کہ تجرباتی دور تھا۔ دہلی میں اس زمانے میں تین
اخبارات مقبول تھے۔ 'صادق الاخبار'، جو سب سے زیادہ کثیر الاشاعت
اور مقبول ترین اخبار تھا 'خلاصة الاخبار'، اور 'اردو اخبار'، 'صادق
الاخبار'، کا ایڈیٹر ایک مسلمان شخص تھا۔ جنگ آزادی کے بعد
اس پر بغاوت کا مقدمہ چلا یا گیا اور هندوؤں نے یہ ثابت کرنے
کی کوشش کی کہ لوگوں کو بھڑکانے اور بغاوت پر آمادہ کرنے
میں سب سے زیادہ اسی اخبار نے حصہ لیا ہے۔ جنگ آزادی کے
ختام پر انگریزوں کی طرف سے بہادر شاہ پر مقدمہ قائم کیا گیا
تو 'صادق الاخبار' کے چند مضامین کو سرکاری وکیل نے بطور
شہادت استغاثہ فراہم کیا تھا۔ ان مضامین میں کابل اور ایران
وغیرہ کی خبریں ہیں، اور فاضل ایڈیٹر نے ان پر ایک مدبر، متین،
معاملہ فہم اور صاف گو اخبار نویس کی حیثیت سے تبصرہ بھی کیا
ہے۔ ایڈیٹر نے کوئی بات محض لوگوں کو اشتعال دلانے یا ان
کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنے کے لئے نہیں لکھی۔
غلط افواہوں کی پر زور تردید کی ہے۔ ان اقتباسات سے تقریباً ۱۱۰
سال پہلے کی طرز اخبار نویسی بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ ایڈیٹر 'صادق
الاخبار'، بہت دور رس، تجربہ کار اور سیاسی و فوجی مبصر تھا۔ اسے
معلوم تھا کہ اس بر صغیر میں انگریزوں کے قدم اس قدر مستحکم
ہو گئے ہیں کہ وہ معمولی شورشوں اور ہنگاموں سے اکھڑ نہیں
سکتے 'صادق الاخبار' کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

اقتباس از 'صادق الاخبار' دہلی:

(صفحہ ۵۸۲)

ایران: ایرانی اخبارات سے یہ تحقیق ہوا ہے کہ شاہ ایران
نے اپنی تمام فوجوں کو مختلف اضلاع سے بلا کر طہران میں
نا حکم ثانی ٹھرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے لئے کہتے ہیں کہ

وہ جو حکم پائیں گی دل و جان سے بجا لائیں گی۔ صحیح خبر دی گئی ہے کہ یہ حکم جو امیر دوست محمد خان کے خلاف ہے دراصل شاہ ایران کی ایک چال ہے۔ اپنے اصلی مقاصد کو پوشیدہ رکھنے کے لئے۔ ان کا مقصد امیر سے لٹنے کا نہیں ہے، بلکہ انگریزوں سے لٹنے اور ان پر فتح پانے کا ہے۔ امیر برطانوی طاقت پر بھروسہ کر کے انگریزوں سے مل گئے ہیں اور انگریزوں اور ایرانیوں کے درمیان تمام بے لطفیوں کے موجب ہیں۔ شاہ ایران نے سر دست دوستانہ تعلقات انگریزوں سے ظاہراً منقطع نہیں کئے ہیں نہ انہوں نے امیر دوست محمد خان سے ذاتی دشمنی اختیار کی ہے۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ تینوں طاقتوں میں کچھ نہ کچھ خیالات کی تبدیلی ضرور ہو گئی ہے۔

اقتباس از 'صادق الاخبار' دہلی:

(نمبر ۲، جلد ۳۔ مورخہ ۲۳ مارچ ۱۸۵۷)

بادشاہ ایران کے نام سے اعلان: سابق میں چند مفسدین نے دہلی میں ہنگامہ برپا کرنے کے لئے یہ سمجھہ کر کہ شہرت ہو گئی جامع مسجد کی پشت پر ایک اعلان شاہ ایران کی طرف منسوب کر کے پیلک کو مغالطہ میں ڈالنے کے لئے چسپاں کر دیا تھا۔ اس اعلان کا لب لباب یہ تھا کہ ہندو مسلمان دونوں عیسائیوں کی مدد نہ کریں اور شاہ ایران عنقریب ہندوستان فتح کر لے گا۔ اور لوگوں کو انعام و اکرام دیکر خوش کرے گا۔ جس شخص نے یہ اعلان مشتہر کیا ہے اپنا نام محمد صادق بتایا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس لغو و لایعنی بات سے حکام دہلی بہت خفا ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو شخص اس جعل ساز کاذب کو گرفتار کر دیگا خاطر خواہ انعام پائے گا۔ لیکن خدا معلوم وہ اب ہاتھ بھی آئے گا یا نہیں۔ ہمارے اچھے کرم فرما مسٹر محمد صادق خان جعل ساز جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے ہمیں یقین ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ہاتھ لگ گئے تو ایک دو تلے کا جوتا، سرکہ میں

تر کیا ہوا ان کی ٹانٹ پر پڑیگا۔ جس سے ان کے بال نہایت خوشنمائی سے جھٹ جائیں گے۔ اس وقت یہ حضرات سمجھہ جائیں گے کہ شیشے کے گھر میں رہکر دوسروں پر پتھر پھیکنا کیا تماشا دکھاتا ہے اور ان بیوقوفوں کی لیاقت کس طرح ناک کی راہ سے نکل پڑتی ہے،

یہ اقتباس دہلی کے سب سے زیادہ مشہور و مقبول اخبار ”صادق الاخبار“ کا ہے۔ شاہ ایران کے اسی اعلان کے متعلق دہلی کے دوسرے نامور اخبار، ”خلاصة الاخبار“ کی رائے و قیاس بھی ملاحظہ فرمائیے:

اقتباس از ”خلاصہ الاخبار“ دہلی:

(نمبر ۸ جلد ۱ - سورخہ ۱۳ - اپریل ۱۸۵۷ع)

ایران - چند روز ہوئے کہ جامع مسجد کی دیوار پر ایک اعلان چسپاں کیا گیا تھا۔ اس پر ایک تلوار اور ڈھال کی شکل بنی ہوئی تھی۔ اور یہ اعلان شاہ ایران کے پاس سے آیا ہوا بتاتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا: ”تمام سچے مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ کمر بستہ ہو کر شاہ ایران کی اعانت کریں اور وفا داری سے اس کی حکومت و اختیار کو ملحوظ رکھیں اور انگریزوں سے جہاد کریں تاکہ انہیں تباہ و برباد کر کے اس کی عنایت کے مورد ہوں اور انعامات و خطابات حاصل کریں جو شاہ ایران فراخ دلی سے عطا کرے گا۔“ پھر اعلان میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شاہ ایران یا جمشید ثانی بہت جلد ہندوستان آئے گا اور اس ملک کو خود مختار بنادے گا اور ایران میں عوام الناس جمع ہو کر حسب ذیل فقرہ بار بار تکرار کرتے ہیں: ”خدایا خاک ایران کو بد بختیوں کی ہواسے بچائیو۔ جب تک کہ خاک و ہوا باقی رہیں،“۔

مجسٹریٹ کی عدالت میں بیشمار گمنام درخواستیں وصول ہوئی ہیں اور ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آج کی تاریخ سے ایک

ماہ بعد کشمیر پر حملہ کیا جائے گا، جس کی فرحت افزائی اور خوبصورتی کا ایک شاعر نے یوں خاکہ کھینچا ہے : ”اگر ایک بلبل بصورت کباب کشمیر میں لایا جائے تو کشمیر کی ہوا سے اس کے بھی بال و پر پیدا ہو جائیں گے۔“

محرر اخبار ان تمام باتوں کو مزخرفات اور حمق پر مبنی سمجھتا ہے کیونکہ اگر ممالک حکومتوں کے ہاتھ سے یوں ہی نکل جایا کریں تو فوجوں کا کیا فائدہ ؟ ،

شah ایران کے اعلان تسخیر هند کو اس زمانے کی سیاسی فضیا میں بے حد اہمیت حاصل تھی - مورخہ ۱۰ - مئی ۷۵ع کو میرٹھ سے جنگ آزادی کی ابتداء ہو چکی تھی - فوجیں دہلی آگئی تھیں - تمام شہر میں آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد اور کشمکش جاری تھی - چنانچہ ۱۱ - مئی ۷۵ع کے، صادق الاخبار، کا اقتباس ملاحظہ فرمائیے جو عین جنگ آزادی میں شائع ہوا تھا :

اقتباس از 'صادق الاخبار' دہلی:

(نمبر ۱۹ جلد نمبر ۳ مورخہ ۱۱ - مئی ۱۸۵۷ء)

شah ایران کا اعلان تسخیر هند

انگریزی اخبار ”پنجابی“، کا ایک ایڈیٹر اپنی نمبر ۱۱ کی اشاعت میں رقم طراز ہے کہ محمرہ پر قبضہ کرتے وقت اس کے نامہ نگار کو شہزادے کے خیمے سے ایک اعلان دستیاب ہوا جس کا خلاصہ نامہ نگار مذکور نے بذریعہ تار بر ق ایڈیٹر کو روانہ کیا ہے اور جسے اب ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے - اعلان کا خلاصہ یہ ہے :

علوم کرنا چاہئے کہ انگریزی حکومت نے اپنی فتح مندی کا علم سب سے پہلے ہندوستان میں نصب کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمام مقبوضات مشرق کے طاقتوں سلاطین کو اپنے قابو میں

لارہی ہے۔ تھوڑا عرصہ گذرا کہ اس نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا لیکن افغانوں کی مسلسل هنگامہ آرائیوں سے تنگ آکر اسے چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے لاہور و پشاور اور دیگر خود مختار ممالک لے لئے۔ اب وہ براہ افغانستان قلمرو ایران کو بھی زیروزبر کرنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت ہمارے ہم مذہب ہمسایہ افغانوں، سے دوستی کر رہی ہے تاکہ یہ اسے گذر جانے دے اور وہ آکر ایران کو تھوڑا کردار کر ڈالے اور مذہب حق کے پیروؤں میں نا اتفاقی ڈال دے۔ مزید براں یہ سنا گیا ہے کہ ایران پر فوج کشی کی غرض سے ایک انگریزی فوج براہ خشکی روانہ ہو گئی ہے اور اس نے ایک بحری قلعہ، جو راہ میں پڑتا ہے، اور وہ مسلمانوں کا ہے، لے بھی لیا ہے اور وہیں مقیم ہے۔ لیکن گورنمنٹ اسے پیش دستی نہیں کرنے دیتی، اور جانتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو مسلمانوں کے غصے اور تیز دھار کی تلوار سے کام پڑیگا اور بہت جلد جانکنی کی حالت میں، جیسے مچھلی پانی میں سے باہر، تڑپتی ہو گئی اور دم توڑتی پھرے گی۔ لہذا شاہ ناصر الدین 'بادشاہ ایران، نہایت وثوق سے یہ اعلان کرتے ہیں:

اعلان: تمام فوجوں کو حدود ایران کے مختلف مقامات پر جمع ہو کر ان دشمنان دین کی مزاحمت کرنی چاہئے جو مخالفین اسلام ہیں۔ اقوام عرب کو لازم ہے کہ پیغمبر کی تعلیم "جنهوں نے تمہیں صدمہ پہنچایا ہے تم بھی انہیں صدمہ پہنچاؤ، پر عمل کریں۔ پس واجب ہے کہ بوڑھے، جوان، ادنی، اعلیٰ عقل مند، کچ فہم، کسان اور سپاہی، سب کے سب، بے پس و پیش اپنے ہم مذہبوں کی حمایت کے لئے ائمہ کھڑے ہوں، ہتھیار باندھ لیں۔ علم اسلامی بلند کریں، اور اپنے ہم قوموں کو بھی راہ خدا میں جہاد کرنے کی دعوت پہنچائیں، چنانچہ ان کو جو حامی دین ہوں گے ان کی جانشیانیوں کا اجر خدا عطا کرے گا اور ما بدولت بھی خوش ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ اشتہار جو شاہزادہ ایران کے خیمه سے نکلا سیاسی حیثیت سے نہایت اہم تھا۔ چنانچہ سر سید احمد خان کو بھی ”اسباب بغاوت ہند“، میں ایک عنوان قرار دیکر صفائی کے طور پر کہنا پڑا تھا کہ ”اشتہار میں جو مشہور ہے کہ ایران کے شہزادے کے خیمه سے نکلا اس کا کوئی لفظ ہندوستان کی سازش پر دلالت نہیں کرتا اسکا مضمون صرف اپنے ملک کے لوگوں کی ترغیب کا ہے۔ ہندوستان کی خرابی کا ذکر اس بنیاد پر ہے کہ ایرانیوں کو زیادہ تر آمادگی لڑائی پر ہو، نہ اس مطلب سے کہ ہندوستان سے سازش ہو چکی ہے۔

دہلی کے ایک اور اخبار، ”اردو اخبار“، کا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیے:

اقتباس از ”اردو اخبار“ دہلی:

(نمبر ۵ - جلد ۱۹ - ۱۲ - اپریل ۷۵)

کابل: ”دہلی گزٹ“، کا ایک نامہ نگار کابل سے ۲۹ - مارچ کو لکھتا ہے، کہ مختصر فوج جسے امیر دوست محمد خان نے پیش لو لاک اور سرخیل قبیلوں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا تھا، محمد شاہ خان سے مقابلہ کرنے کے بعد، جس میں ان کے تقریباً ۳۰۰ آدمی ہلاک اور اتنے ہی زخمی کئے گئے ہیں، جلال آباد واپس ہو گئی ہے۔ کثیر مال غنیمت امیر کے سپاہیوں کے ہاتھ اگا ہے اور خان مذکور اپنی جان بچا کر پھاڑی قلعوں میں جو ملغان میں ہیں، جا چھپا ہے۔ میر داد خان کا بھائی ابھی جلال آباد سے آیا ہے اور نامہ نگار کو اطلاع دی ہے کہ امیر، تات میخ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ابھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ جشن نوروز بالا باغ میں منائینگے یا کابل میں۔ برادر میر داد خان نے یہ بھی بیان کیا کہ چند انگریزی اخبارات ہندوستان سے شائع شدہ امیر کے سامنے پڑھے گئے جن میں گورنمنٹ کی بدنظمی پر تنقید کی گئی تھی کہ وہ امیر کو خواہ مخواہ رویہ دیتی ہے حالانکہ وہ دو طرفہ

تعلقات رکھتے ہیں۔ امیر نے یہ سنکر کہا کہ جب گورنمنٹ پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو وہ لوگ لاکھوں پونڈ صرف کر دیتے ہیں اور اب جبکہ ایرانی، روسيوں کی تحریک پر افغانستان پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مخصوص گورنمنٹ ہند کو دق کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو گورنر جنرل نے عقل مندی اور دوراندیشی سے کام لیکر امیر کے عہد و پیمان پر غور کیا ہے کہ وہ قائم رکھنے کے قابل ہے۔ نامہ نگار کہتا ہے کہ کابل میں اس کا بہت چرچا ہے کہ سلطان محمد خان ہی کی تحریک و مفسدہ پردازی ہے۔ جو انعام ساجی پھاڑی علاقہ کے باشندوں کو بھڑکا رہا ہے اور معتبر خبر ملی ہے کہ سلطان جان نے کمانڈر ان چیف افواج ایران مستعینہ هرات سے گوشک پر فوج کشی کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اہل گوشک نے اسے اس شرط پر مدد دینی منظور کی ہے کہ تین سال تک کا خراج معاف کر دیا جائے۔

یہ اردو اخبار دہلی کی کابل سے متعلق خبر تھی۔ اب، 'صادق الاخبار، دہلی کی دوران جنگ کی ایک اشاعت کا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیے:

اقتباس از 'صادق الاخبار'، دہلی:

(نمبر ۳۴ جلد ۱۹ - مورخہ ۲۳ - اگست ۱۸۵۷ء)

ایران کی فوجی خبریں: پنجاب و پشاور کی طرف سے آنے والے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایرانی فوج انک پہنچ گئی ہے۔ گو مجھے فی نفسه اس پر یقین نہیں ہے۔ مگر میں نے عوام کی زبانی یہ افواہ سنی ہے اس وجہ سے اس کو شائع کیا اور ممکن بھی ہے کہ ایسا ہو کیونکہ کسی طرح بعد الفہم نہیں جو لغو یا جھوٹ تصور کر لیا جائے۔ لیکن یہ ضرور خیال آتا ہے کہ جس طرح یہ افواہ مشہور کی جاتی ہے اس پر یقین و بھروسہ نہیں ہو سکتا۔

یہ ۲۳۔ اگست ۱۸۵۷ع کی خبر تھی، اس کے اگلے روز کی خبر اسی اخبار میں ملاحظہ فرمائیے: ایرانی فوج کا نزدیک پہنچ جانا۔ ایڈیٹر ٹرائمنٹ نیوز، رقمطراز ہے کہ اس نے پنجاب اور پشاور کی طرف سے آنے والے مسافروں سے سنا ہے کہ ایرانی فوج نے انک تک راستہ صاف کر لیا ہے۔ مجھے چند وجوہات کی بنا پر یہ خبر قابل یقین نظر آتی ہے:

اول - کوئی شخص کچھ نہیں کہتا تاوقتیکہ اس کی کوئی دلیل نہ رکھتا ہو۔

دوم - ولی صفت، شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیش گوئی ہے کہ ہندوستان پر عیسائیوں اور آتش پرستوں کی سو سال تک حکومت رہے گی۔ پھر جب ان کے قلمرو میں بے انصاف و ظلم ہونے لگے تو ایک عرب کا شہزادہ اٹھے گا اور بصد عز و شان آکر انہیں قتل کرے گا۔

سوم - جب ملتان کی فوجوں نے بغاوت کی تو کہا تھا کہ ہمارے افسروں اور شاہ ایران میں خط و کتابت ہوئی ہے۔ چہارم - شاہ ایران نے یہ سن کر کہ برطانوی سلطنت میں میرا ایک پرجوش و سرگرم دوست رہے، ایک جاسوس روانہ کیا تھا اور وہ جاسوس یہاں آیا تھا کہ شاہ ایران نے ہندوستان آنے کا مصمم قصد کر لیا ہے، پس چاہے وہ جلد آئے یا دیر سے مگر اس کے آنے میں کلام نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔

اس کے بعد 'صادق الاخبار' کی ہی ۱۳۔ ستمبر ۱۸۵۷ع کی اشاعت کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں:

اقتباس از 'صادق الاخبار' دہلی:
(مورخہ ۱۳۔ ستمبر ۱۸۵۷ع)

ایران: بعض لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایرانی فوج درہ بولان اور بی بی مری پر آگئی ہے اور امیر دوست محمد خان

نے بخوبی خاطر اپنے حدود سے اسے گزرنے دیا ہے۔ لیکن بموجب مشہور ہندی کہاوت کے کہ برهمن کھانے کی دعوت پر اس وقت یقین کرتا ہے جب کھانا سامنے آجاتا ہے، اہل ہند اس پر اسی وقت یقین کریں گے جب کوئی عینی شہادت مل جائے گی۔ لیکن کئی وجوهات کی بنا پر ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خواہ موجودہ خبریں صحیح ہوں یا غلط لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ ایک نہ ایک روز ایرانی فوجیں ضرور آئیں گی خواہ درہ بولان سے ہو کر آئیں یا بمیشی یا سنده سے۔ باقی خدا ہی علام الغیوب ہے یعنی غیب کی خبریں سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں،

دہلی کے مشہور اخبارات 'صادق الاخبار'، 'خلاصة الاخبار'، اور 'اردو اخبار'، کے یہ چند اقتباسات جنگ آزادی کے متعلق پیش کئے گئے ہیں۔ ان سے اس زمانہ کی خبروں، وسائل اور اخبار نویسی کے متعلق بھی کافی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔

-*-

بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ

(ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی)

بہادر شاہ ظفر کے روز نامچے کے نام سے جو کتابیں اس وقت دستیاب ہیں ان میں ۱۸۳۹ع سے ۱۸۴۲ع تک کے درباری واقعات کا ذکر ہے۔ ان کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی انگریزی حکومت اور بادشاہ کے درمیان آئے دن کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہوئی رہتی تھیں۔ یہ باہمی رنجشیں اور کدورتیں آہستہ آہستہ پڑھتی گئیں۔ یہاں تک کہ جب ۱۶۔ مئی ۱۸۵۷ع کو جنگ آزادی کی پہلی چنگاری پھوٹی تو دلوں کی یہی کدورت شعلہ، جوالہ بنکر بھڑک اٹھی۔ اندریں حالات بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ، ۱۸۵۷ع کے ہنگامے کا تاریخی اور سیاسی پس منظر ہے، جس کی روشنی میں ہمیں وہ اسباب نظر آتے ہیں جنہوں نے دودمان مغلیہ کے اس آخری تاجدار کو برطانوی حکومت سے ناراض اور بدگمان کر دیا تھا۔

بہادر شاہ کے اس روز نامچے پر تنقیدی نگاہ ڈالنے اور اس کا صحیح مفہوم اخذ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس عہد نامے کا جائزہ لیا جائے جو انگریزوں نے ستمبر ۱۸۰۳ع میں دہلی فتح کرنے کے بعد شہنشاہ ہند، شاہ عالم ثانی کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ عالم اگرچہ بیٹائی کھوچکے تھے اور اختیار و اقتدار سے بھی محروم تھے لیکن

ہندوستان کے شہنشاہ کی حیثیت سے وہ اب بھی اس برعظیم کی سیاست کے مرکز نقل تھے۔ اس لئے انگریزان کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس معاہدے میں یہ شرائط درج کی گئی تھیں کہ:

(۱) وہ خاص علاقہ جو دہلی کے نواحی میں دریائے جمنا کے داہنی طرف واقع ہے شاہی خاندان کی کفالت کے لئے دے دیا جائے گا اور یہ علاقہ دہلی کے ریزیدنٹ کے ماتحت رہے گا۔ مالیات کا وصول کرنا اور انصاف کا قائم کرنا گورنمنٹ کے قانون کے مطابق شاہ عالم کے نام سے ہوگا بادشاہ کو اختیار ہے کہ ایک دیوانی کا افسر اور دوسرے چھوٹے چھوٹے افسر کلکٹر کے دفتر میں رکھیں جن کا کام یہ ہوگا کہ جانچ پڑتاں کریں اور بذریعہ رپورٹ بادشاہ کو اس امر کا اطمینان دلاتے رہیں کہ وصولی مالگزاری میں جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی حصہ خورد برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔

(۲) دہلی شہر اور اس اراضی کے باشندوں کے لئے جو بادشاہ کے نام منتقل کر دی گئی ہے دیوانی اور فوجداری کی دو عدالتیں قائم ہوں گی جو اسلامی قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرینگی۔ فوجداری عدالتوں کے سزاً موت کے حکم کی تعمیل اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک بادشاہ سے منظوری نہ لے لی جائے۔

(۳) بادشاہ اور ان کے خاندان کی کفالت کے لئے ایک لاکھ روپے ماہوار وظیفہ دیا جائے گا۔ اس رقم کے علاوہ دس ہزار روپے سالانہ ہندو اور مسلمانوں کے خاص تھواروں کے موقع پر قدیم رواج کے مطابق دئے جائیں گے۔

یوں سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں اگرچہ انگریزوں کی حکومت قائم تھی لیکن دہلی میں شاہ عالم کی سیادت کو از راہ مصلحت باقی رکھا گیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اور انگریزوں کے پاؤں مضبوطی سے جنمئے گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مغل بادشاہ کی بالادستی کو ختم کر دینا

چاہئے۔ جنوب میں مرہٹوں اور ٹیپو سلطان کی طاقت فنا کی جاچکی تھی۔ ادھر شمال میں سکھوں کا زور توڑا جاچکا تھا۔ لے دے کے یہ مغل شاہنشاہیت کا ٹھمماتا ہوا چراغ باقی تھا جس کی موجودگی برطانوی اقتدار کی آنکھ میں کانٹا بنکر کھٹک رہی تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے بتدریج ایسی حرکتیں شروع کیں جن سے اس عہد نامے کی خلاف ورزی ہوتی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے روز نامچے کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قابل اعتراض اور خلاف قاعده حركات کیا تھیں۔

اول تو شہر دہلی سے دیوانی اور فوجداری کی دونوں عدالتیں جو شرع اسلامی کی رو سے انفصالم مقدمات کے لئے قائم کی گئی تھیں منسوخ کر دی گئیں اور ان کی جگہ برطانوی قانون کے مطابق انگریزی حکومت نے اپنی عدالتیں قائم کیں اور ان عدالتوں پر بادشاہ کا قطعاً کوئی اختیار نہ تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ پڑھکر حیرت ہوتی ہے کہ بادشاہ اور خاندان شاہی کے دیگر افراد پر آئے دن ان عدالتوں میں لوگ دعوے دائیر کرتے رہتے تھے اور یہ سب کچھ انگریز ریزیڈنس کے علم سے ہوتا تھا۔ بادشاہ کو ہر لمحہ اپنی بے بسی کا احساس تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے خلاف جو معناً نہ سہی لیکن لفظاً اب بھی شہنشاہ ہند تھا، معمولی بنیئے اور ساہوکار ان عدالتوں سے ڈگریاں لے لے کر شاہی جائیداد قرق کراتے تھے۔ بہادر شاہ بار بار دہلی کے انگریز ریزیڈنس کو لکھتا ہے کہ شاہی جائیداد قرق نہیں ہو سکتی۔ لیکن ریزیڈنس مہایت ہوشیاری سے بادشاہ کی ان پیغمب عرضداشتیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔

ابتداء میں جب شاہ عالم کے ساتھ انگریزوں کا معاہدہ ہوا تو یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ دہلی شہر پر بادشاہ کی عملداری قائم رہے گی لیکن بہادر شاہ کے زمانے میں وہ عملداری سراسر ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ شروع سے یہ قاعده چلا آتا تھا کہ جب بادشاہ کی سواری قلعہ معلحی سے نکلتی اور راستے میں اتفاق سے کوئی انگریز، بگھی یا گھوڑے پر سوار، ملتا تو وہ

فوراً نیچے اتر کر آداب بجا لاتا تھا۔ بہادر شاہ کے ساتھ انگریزوں نے ادب و نیاز کا یہ سلوک بھی ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ کے روزنامچے میں اس قسم کا ایک واقعہ درج ہے کہ ایک روز جمنا کے کنارے بادشاہ کی سواری جارہی تھی تو راستے میں ایک انگریز گھوڑے پر سوار ملا۔ جب وہ نہایت بیباکی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا بادشاہ کے برابر سے نکلنے لگا تو شاہی خدام نے اسے زبردستی گھوڑے سے اتار دیا۔ بعد میں دہلی کے انگریز ریزیدنٹ نے بادشاہ سے اس واقعہ کی سخت شکایت کی کہ انگریزوں کو اس طرح سر راہ سواری سے اترنے اور آداب بجا لانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ اس قسم کے واقعات کو اپنی توهین سمجھکر سخت رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ دہلی کے بازاروں میں بھی پہلے یہ قاعدہ تھا کہ انگریز اگر ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتے اور راستے میں شاہی خاندان کے افراد کی سواری ملتی تو انگریز اپنے ہاتھی کو ایک طرف کر لیتے تھے تاکہ خاندان شاہی کی سواری گذر جائے، لیکن بہادر شاہ کے خاندان کے لوگوں سے انگریز حکام نے یہ ترجیحی سلوک بھی ترک کر دیا تھا۔

بہادر شاہ کے والد، اکبر شاہ ثانی، کے عہد تک گورنر جنرل نے اپنی سرکاری مہر پر ”وفادر اکبر شاہ“، اور ”حلقه بگوش اکبر شاہ“، کے الفاظ کندہ کرا رکھے تھے۔ اور گورنر جنرل جب بادشاہ کو کوئی خط لکھتا تھا تو وہ خط حقیقتاً ایک عرض داشت یا درخواست کی شکل میں ہوتا تھا۔ لیکن بہادر شاہ کے زمانے میں گورنر جنرل نے اس مہر کا استعمال ترک کر دیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ ہر قسم کی مراسلت بھی بند کر دی تھی بلکہ یہ حکم دے دیا تھا کہ بادشاہ براہ راست گورنر جنرل کو کسی قسم کا خط نہیں لکھ سکتا اور اگر اسے گورنر جنرل تک کوئی بات پہنچانی بھی ہو تو وہ دہلی کے انگریز ریزیدنٹ کے توسیل سے پہنچائی جائے۔ بہادر شاہ اس نوع کے توهین آمیز سلوک سے سخت دل گرفتہ تھے اور ان کے روزنامچے میں اکثر مقامات پر اس کوافت اور

دل گرفتگی کے آثار ملتے ہیں ۔

ایک اور چیز جو بہادر شاہ کے روزنامچے سے معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ شاہ عالم ثانی کے وقت سے قاعده چلا آرہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حکام جن میں برطانوی فوج کے کمانڈر انچیف بھی شامل تھے جشن شاہی کے موقع پر بادشاہ کی خدمت میں نذر پیش کیا کرتے تھے ۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ اس رسم کو بھی مشادیا تھا ۔ مدعما اور مقصود یہ تھا کہ شاہ دہلی کے تفوق کا احساس لوگوں کے دلوں سے محو کر دیا جائے تاکہ عوام بادشاہ کو کہیں ہندوستان کا مالک تصور نہ کرنے لگیں ۔ اس حربے کو زیادہ کارگر بنانے کے لئے دہلی کے انگریز ریزیدنٹ کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان لوگوں پر بھی کڑی نگاہ رکھے جو وقتاً فوقتاً بادشاہ سے تخلیٰ میں ملاقات کرتے ہیں ۔ چنانچہ گئے چنے درباری امرا کے علاوہ اگر کوئی اجنبی بادشاہ سے علیحدگی میں ملتا تو ریزیدنٹ بادشاہ سے اس ملاقات کی تفصیلات دریافت کرتا تھا ۔ بہادر شاہ کے روزنامچے میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں عرب، ایران یا جنوبی ہند کے کسی درویش صفت اور فقیر منش مسافر نے بادشاہ سے ملاقات کی تو دوسرے ہی روز ریزیدنٹ کی بارگاہ سے جواب طلبی کا پروانہ وارد ہو گیا ۔ انگریزی حکومت نہایت ہوشیاری سے، لیکن در اصل اپنی مطلب براہی کے لئے، لال قلعہ کو سازشوں کا مرکز بنارہی تھی اور بادشاہ کو ان تمام ہتھکنڈوں کا علم تھا ۔ انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ شاہی خاندان میں ہر ممکن طریقے سے تفرقہ پیدا کیا جائے اور پھوٹ ڈالی جائے ۔ چنانچہ وہ ایک شہزادے کو دوسرے کے خلاف، اور بادشاہ کی ایک بیوی کو دوسری بیوی کے خلاف، آمادہ پیکار کرتے رہتے تھے اور بادشاہ بعضی اوقات ان خانگی جہگڑوں سے اس قدر پریشان ہو جاتے تھے کہ وہ مجبوراً انگریز ریزیدنٹ کو خط لکھتے تھے کہ خدا را ان شہزادوں کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی حرکتوں سے خاندان شاہی کو بدنام نہ کریں ۔ بادشاہ کو

معلوم تھا کہ اس فتنہ و فساد کو بالواسطہ ہوا دینے والا وہی انگریز ریزیڈنٹ تھا جس سے وہ استمداد کر رہے تھے۔ لیکن حالات نے انہیں اس قدر عاجز اور بے بس کر دیا تھا کہ وہ تنگ آکر اسی شخص سے اپنے مرض کا علاج کرانا چاہتے تھے جس نے مرض پیدا کیا تھا۔ بہادر شاہ کے روزنامچے میں اکثر اس قسم کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ روز نامچے کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انگریز گورنر گنرل جب صوبیجات مغربی کا دورہ کر رہا تھا تو اس نے دہلی آکر بادشاہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن شرط یہ عائد کی تھی کہ ملاقات بالکل مساویانہ طریق سے ہو گی۔ یعنی گورنر گنرل اور بہادر شاہ کے درمیان حیثیت اور مرتبے کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو یہ شرط منظور نہیں تھی اور وہ گورنر گنرل کو اپنے برابر جگہ دینے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اس بنا پر ملاقات نہ ہو سکی۔

اس واقعہ کے بعد انگریزی حکومت نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ بادشاہ دہلی کی مرکزی حیثیت کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اب ہندوستان کی فضا میں سوائے برطانوی جہنڈے کے اور کوئی جہنڈا نہیں لہرا سکتا۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاہی خاندان کو لال قلعہ سے نکال کر قطب صاحب میں آباد کیا جائے۔ دہلی کا لال قلعہ شاہ جہاں کے وقت سے مغل شہنشاہیت کا مرکز اور ہندوستان کا قلب تصور کیا جاتا ہے۔ انگریز جانتے تھے کہ خاندان مغلیہ کی جاہ و سطوت کے مٹ جانے کے باوجود ہندوستان کے دور دراز گوشوں کے لوگ ابھی تک لال قلعہ ہی کو حکومت ہند کا اصلی محور سمجھتے تھے۔ عوام کی یہ نفسیاتی کیفیت برطانوی راج کے استقلال کے لئے بیحد نقصان دہ تھی۔ چنانچہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر لال قلعہ پر مغلوں کا جہنڈا بدستور لہراتا رہا تو بہت ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ پرچم برطانوی شہنشاہیت کے پرچم کا حریف ثابت ہو۔

دوسری چیز جو انگریزوں کے دل میں کانٹا بنکر کھٹک رہی تھی یہ تھی کہ لال قلعہ میں رہنے والے حکمران کو بادشاہ کے لقب سے محروم کر دیا جائے۔ بہادر شاہ اگرچہ بالکل بے دست و پا انسان تھا۔ لیکن وہ ابھی تک عوام ہی کے لئے نہیں، بلکہ اس برعظیم کے تمام والیاں ریاست کے نزدیک بھی اس وسیع و عریض ملک کا جائز وارث اور ہندوستان کا شہنشاہ تھا۔

انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بہادر شاہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کو 'بادشاہ' کی بجائے صرف 'شہزادے'، کے لقب سے پکارا جائے گا اور شاہی خاندان کو لال قلعہ سے نکال کر قطب صاحب بھیج دیا جائے گا۔ بہادر شاہ کو ان تمام باتوں کا بخوبی علم تھا۔ لیکن وہ مجبور تھا۔ اسی دوران میں ۱۸۵۷ع کا ہنگامہ برپا ہوا تو شاہی خاندان نے ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح اپنی زندگی بچانے کی آخری کوشش کی اور ظاہر ہے کہ اسی کوشش میں فنا ہو گئے۔

—*—

بہادر شاہ ظفر کے فرمانیں

(ڈاکٹر ابواللیث صدیقی)

اورنگ زیب عالمگیر رح کی وفات ۱۷۰۷ع میں ہوئی اور ۱۷۱۴ع میں پلاسی کی تاریخی جنگ، جس میں انگریزوں کو شمالی ہندوستان میں پہلی فتح نصیب ہوئی در اصل اسی دن قسمت نے سلطنت کا فیصلہ کر دیا اور اگلے تقریباً دو سو سال تک هزاروں میل دور بیٹھے ایک قوم کے چند افراد لاکھوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے رہے۔ ۱۷۰۷ع سے ۱۷۱۴ع تک صرف پچاس سال کی مختصر مدت میں اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں کی مستحکم سلطنت جس طرح پارہ پارہ ہوئی۔ اسکی داستان دلخراش بھی ہے اور عبرت آسوز بھی۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ حکومت اور امارت نے خون سفید کرنے تھے مذہب، ایمان، اخلاق سب کی بند شیں ٹوٹ گئی تھیں۔ طوائف الملوکی تھی۔ افراتفری تھی۔ ذہنی اور سماجی انتشار تھا غرض آفات اور حوادث کی ایسی آندھیاں چل رہی تھیں کہ امید کی شمعیں جلانی جاتیں اور بجهہ جاتیں۔ سلطان شہید ٹیپو اور سراج الدولہ سے بہادر شاہ ظفر تک انہیں آندھیوں میں امید کے چراغ روشن کرنے والے بھی موجود تھے۔ ان کے ذرائع اور وسائل محدود تھے۔ انہیں بیگانوں ہی سے شکایت نہ تھی، اپنوں کا بھی شکوہ تھا۔ اور آج جب ہم پچھلے دو سو سال کی تاریخ کی طرف مژکر دیکھتے ہیں تو ان کی امیدیں اور تمثیلیں

ان کے ولولے اور ان کا جوش عمل اور ان کی ناکامیاں اور محرومیاں ایک سرقة بنکر سامنے آجائی ہیں ۔

بہادر شاہ ظفر پر سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو گیا ۔ لیکن کیا ظفر چاہتے تو وہ اس انقلاب کو روک سکتے تھے؟ کیا ان میں اس قدر طاقت اور قوت تھی جو وہ اس تناؤر درخت کو جس کی بنیادیں پوری ایک صدی سے گھلتی چلی آ رہی تھیں، گرنے سے روک لیتے؟ اور کیا وہ تنہا اس جنگ آزادی میں، جسے برطانوی عہد کے مؤرخین ”غدر“، کے مکروہ نام سے یاد کرتے ہیں، ایک سامراجی قوت کا کامیابی سے مقابلہ کرسکتے تھے؟ یہ اور اس قسم کے دوسرے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ۔ لیکن ان کا جواب بہادر شاہ ظفر کا مؤرخ ہی دے سکتا ہے ۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس جنگ آزادی کی کہانی ان کے فرامین میں کہاں کہاں اور کس طرح ظاہر ہوتی ہے ۔

بہادر شاہ کے مطبوعہ فرامین میں ان کے وہ احکام شامل ہیں جو جنگ آزادی کے ایام میں انہوں نے بعض درخواستوں اور مراسلوں پر تحریر کئے تھے ۔ اور جن کو بہادر شاہ پر مقدمہ چلاتے وقت بطور شہادت ان کے خلاف پیش کیا گیا تھا ۔ یہ کاغذات Trial of Bahadur Shah میں شامل تھے ۔ بعد میں خواجہ حسن نظامی صاحب نے ”غدر کے فرمان“، کے نام سے انکا ترجمہ کر دیا ۔ یہ خطوط ییشور اردو میں تھے ۔ Trial of Bahadur Shah میں ان کا انگریزی ترجمہ کیا گیا ہے اور پھر انگریزی سے اردو میں منتقل ہوئے ۔ اس طرح ان فرامین کی عبارت اصل بہادر شاہ کی عبارت نہیں ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں تصرف کیا گیا ہو ۔ ہر حال ان فرامین کے مطالعہ سے کئی باتیں واضح ہو جاتی ہیں ۔ سب سے پہلے یہ کہ بہادر شاہ جنگ آزادی کی تحریک کا مرکز اور محور تھے ۔ لیکن یہ ایک عوامی تحریک تھی اور اختلاف مذہب یا اختلاف زبان ان لوگوں کے اتحاد میں مانع نہ تھا جو اس جنگ میں شریک تھے ۔ دوسری طرف

ان فرامین سے اس جنگ کی ناکامی کے اسباب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ خزانہ خالی تھا بہادر شاہ کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی جو سپاہیوں کو باقاعدہ اور بر وقت تنخواہ مل جاتی۔ یہی حال سامان حرب اور آلات جنگ کا تھا۔ رسد کا یہ حال تھا کہ جو فوج دہلی میں موجود تھی اس کے ایک حصے کو دو دن کا فاقہ گذر چکا تھا جب سو من بھئے ہوئے چنے طلب کئے گئے۔ پھر اس کے ساتھ آپس کی چشمک، حسد، رقابت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی جاری تھی۔ یعنی خود اپنی صفوں میں اتحاد نہ تھا۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو ذاتی مفاد کے لئے انگریزوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ اور انہیں میں وہ جاسوس شامل تھے جو ہر کارروائی کی اطلاع دشمن کو پہنچاتے رہتے تھے۔ ایسے ایک بزرگ محمد درویش تھے جنہوں نے لفٹنٹ گورنر کو ایک خط میں لکھا تھا کہ بادشاہ دہلی حسن عسکری کی معرفت شاہ ایران سے ساز باز کر رہے ہیں۔ اور بادشاہ کے کمرۂ خاص میں شب و روز ایرانیوں کی فوری آمد کا ذکر رہتا ہے۔ بغرض خیر خواہی مندرجہ بالا حالات سے مطلع کیا گیا ہے، اب گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ مناسب بندوبست کرے۔ اس خیر خواہ کی یہ خیر خواہی ۲۳۔ مارچ ۱۸۵۷ کو لفٹنٹ گورنر کو ملتی ہے۔ جنگ آزادی مئی میں شروع ہوئی۔ گویا مہینوں پہلے جو تیاریاں ہو رہی تھیں ان کی تفصیل سے انگریز پوری طرح آگاہ تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہادر شاہ کمرۂ خاص میں جن مشاہیر و اکابر سے گفتگو کرتے تھے اور جو حقیقیہ احکام صادر فرماتے تھے۔ ان کی اطلاع بھی لفٹنٹ گورنر کو ہو جاتی تھی۔ ۱۸ اگست ۱۸۵۷ کو لکھا ہوا ایک خط ملتا ہے جو مکنڈ لال نے لکھا ہے۔ مکنڈ لال کے خط میں ۲ خطوط و هدایات کی تفصیل ہے اور لکھنے والا مکنڈ لال بہادر شاہ کا سکریٹری ہے۔ مکنڈ لال ہندو تھا اگر اس جنگ کی نوعیت صرف یہ ہوتی کہ مسلمان اپنی حکومت قائم کرنے کے لئے انگریزوں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کر رہے تھے تو ظاہر ہے

غیر مسلموں پر بھروسہ نہ کیا جاتا اور کم از کم انہیں بادشاہ کے سکریٹری کا اہم عہدہ ہرگز نہ دیا جاتا۔ بادشاہ کا دل صاف تھا لیکن جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا وہ اس اعتماد کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ بہادر شاہ کی یہکسی اور بے بسی کا اندازہ ان کے اس فرمان سے کیجئے :

”بنام فرزند ما بدولت شہرہ آفاق دلاور مرزا ظہور الدین عرف مرزا مغل بہادر—جانو کہ جب پیدل و سوار میرے پاس آئے تھے تو میں نے خود اپنی زبان سے ان سے کہدیا تھا کہ میرے پاس خزانہ یا مال نہیں ہے جس سے میں ان کی مدد کروں۔ انہوں نے میرا یہ بیان سنکر سر تسلیم خم کیا اور میرے لئے اپنی جانوں کو قربان کر دینے پر آمادگی ظاہر کی اور ماتحتی اور فرمان برداری کو منظور کیا۔ اس پر انہیں اول ہدایت کی گئی تھی کہ میگزین اور خزانے کی اشیا مہیا کریں تاکہ اس سے انہیں اور مجھے فائدہ پہنچے دوسرے یہ کہ اگرچہ اس معاملے میں ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا تاہم روپیہ قرض لیا گیا۔ تاکہ ہر پیدل و سوار کو روزانہ الاؤنس دیا جاوے۔ مکرر فرمان جاری کئے گئے کہ شہر میں لوث مار اور داروگیر نہ کی جائے۔ مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ فوجی اور سپاہی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ ان تمام شہروں میں جو بغیر فوجی دخل کے تصرف میں لائے گئے ہوں ایسی غارت گری نہ ہوئی ہو گئی۔ چنگیز خان اور نادر شاہ بادشاہوں نے بھی ایسے شہروں کو پناہ دی ہے جو بے لڑے بھڑے قبضے میں آگئے ہوں،“

اس کے بعد بہادر شاہ سپاہیوں کی بدتمیزی کی شکایت کرتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے اعلیٰ افسر بھی قلعہ دیکھنے آتے تو دیوان عام کے دروازے پر گھوڑوں سے اتر پڑتے۔ اور وہاں سے پیدل آتے۔ لیکن یہ لوگ دیوان خاص کے کمرے تک گھوڑوں پر بیٹھے چلے آتے ہیں۔ ابتری اور افراتفری کی طویل اور دلخراش داستان بہادر شاہ ان الفاظ میں ختم کرتے ہیں :

”اس حکومت کی بربادی صاف عیاں ہے۔ مجبوراً تھک کر ہم نے آخر کار اپنی بقیہ عمر یادِ الہی میں بسر کرنے کی ٹھان لی ہے اور خطاب شہنشاہی کو جو تفکرات اور مشکلات سے لبریز ہے موجودہ خطرات و بیقاریوں سے تنگ آکر تمیہ کر لیا ہے کہ ترک کر دیں۔ اور کفن پہن کر پہلے خواجہ صاحب کی درگاہ میں جا کر مقیم ہوں اور پھر ضروری انتظام کر کے وہاں سے سکھ مکرمہ روانہ ہو جائیں،،۔

اس ہنگامے میں یہ ضروری تھا کہ شہری زندگی میں کوئی بڑا خلل واقع نہ ہو اور فوجِ شہری نظم و نسقِ سنبھالنے کی جگہ مورچوں کا رخ کرے۔ اس ضرورت کے احساس سے ۲۳۔ جولائی کو بہادر شاہ نے یہ فرمان جاری کیا :

”اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ظلم نہ کرے اور یہ کہ اصلِ زمینداروں کی رعایا بن کر رہے کہ وہ سلطنت کے خیرِ خواہ سمجھے جاتے ہیں۔ نظم و نسق کے لئے بہت جلد فوجی قوت روانہ کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت بادشاہ سلامت کو اپنی رعایا کی فلاح و بہبودی کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہتی ہے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جو بد امنی پھیلانے یا حکام با اختیار سے سرکشی کرنے کے مجرم ہوں گے مستوجب سزاً شدید ہوں گے۔ یہ اعلانِ عوام کی آگاہی کے لئے کیا جاتا ہے،،۔

کسی جنگ میں سب سے اہم کام فوجی نقل و حرکت اور محاذِ جنگ کی ترتیب ہے۔ یہ کام سوائے فوجی ماہروں کے کسی اور کے بس کا نہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو فوج میں قحطِ الرجال تھا کہ اس کام کے قابل کوئی آدمی نہ تھا یا آپس کے حسد و رقابت کی وجہ سے بادشاہ کو خود ان امور کا فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً کمانڈر انچیفِ مرزا مغل تھے جو بادشاہ کے فرزند تھے۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی پیش کرتے ہیں :

”چونکہ اعلیٰ حضرت نے فوج کو میرٹہ جانے کا حکم صادر فرمایا ہے لہذا رسد وغیرہ کے انتظامات کے لئے یہس سوار، پچاس

پیدل پہلے سے جانے ضروری ہیں۔ امید ہے کہ خادم کو ان کے روانہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے گی،۔
اس پر بہادر شاہ نے پینسل سے یہ فرمان لکھا ہے :
”میر حیدر حسین خان ۲۰ سواروں کو اور شاہرخ بیگ پچاس پیدلوں کو روانہ کر دیں،۔

بادشاہ اس موقع پر صرف نقل و حرکت ہی کی نگرانی نہیں کرتے تھے بلکہ رسد اور سامان حرب کے حمل و نقل کی ذمہ داری بھی ان پر تھی۔ چنانچہ ۲۰ جون کو کمانڈر مرزا مغل کے نام ایک فرمان میں لکھا گیا۔

”معلوم ہو کہ شورہ لانے کے لئے چھ گڑیاں تیار کی گئی ہیں۔ جو باہر جمع ہیں اور بارود کے لئے جس کی ضرورت ہے۔ پس ’باقاعدہ پیدل‘ کے پیچیں آدمیوں کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر دو کہ بہ حفاظت میگزین پہنچ جائے۔ نیز فوجی پہرہ مستعینہ لاہوری دروازے کے نام احکام جاری کرو کہ اس آمد و رفت میں رخنے اندازی نہ کریں،۔

اگر بہادر شاہ کا کام صرف فوجوں اور فوجی سامان کے نقل و حمل تک محدود ہوتا تو ایک بات تھی، فوجوں کی بھرتی اور ملازمت کی ذمہ داری بھی بالآخر براہ راست ان پر ڈال دی گئی تھی۔ اور ہر ملازم ہونے والے کی درخواست ان کے سامنے پیش ہوتی تھی۔ مرزا مغل کے نام ایک فرمان میں لکھتے ہیں

”معلوم ہو کہ بے شمار آدمیوں کی درخواستیں تمہاری درخواست کے ساتھ موصول ہوئیں جن میں نوکری کی خواہش کی گئی ہے فرزند تم کو معلوم ہے کہ خزانہ شاہی میں روپے کی قلت ہے۔ ”قسمتوں“ سے متوقع آمدنی وصول نہ ہونے اور فوج کے باہر جا کر بندوبست نہ کرنے اور حکومت میں ڈاکہ زنی و لوٹ مار کرنے کے سبب سے اور پھر ہر حصہ ملک سے کثیر افواج کے ایک جگہ جمع ہو جانے کے سبب اخراجات روزمرہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ پھر ان لوگوں کو کیونکر

ملازم رکھا جائے؟ اور ان کی تنخواهیں اور اخراجات کہاں سے پورے کئے جائیں؟ ایسی حالت میں ان لوگوں کو جن کے وطن دور دراز فاصلے پر ہیں موهوم امیدیں دلانی بالکل بے جا بات ہے،۔

برہمن، حجام، دھوبی، درزی تک کے تقرر کا مسئلہ بہادر شاہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔

بہادر شاہ کی ذمہ داریوں کا تو یہ حال تھا اور ان کی کس میسری کا یہ عالم کہ نہ ان کے پاس روپیہ تھا، نہ فوج اور نہ سپاہ ان کے احکام کی تعمیل کرتی تھی۔ وہ تنہا اس جنگ کو کیسے جیت سکتے تھے؟ سب سے بڑی پریشانی روپیہ کی کمی سے پیدا ہوئی۔ ایک فرمان سے اس کا اندازہ کیجئے:

”فرزند شہرہ آفاق دلاور، مرتضیٰ ظہور الدین عرف مرتضیٰ مغل کمانڈر انچیف بہادر، معلوم ہو کہ فوج کی روزانہ یا ماہانہ تنخواہ دینے اور میگزین کے ضروری مصارف اور اخراجات توب خانہ و بارود کے لئے خزانے میں روپیہ بالکل نہیں ہے اور بارود نہ ہوئی تو دشمن سے لڑنا دشوار ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت ہے کہ فی الفور کہیں نہ کہیں سے بغیر سود کے قرضہ لیا جائے۔ اور پنجابی سوداگروں اور انگریزوں کے مالدار نوکروں سے بھی روپیہ لیکر خزانہ میں داخل کیا جائے۔ نیز یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہندیاں بناؤ کر ہمارے پاس بھیجو کہ ہماری مہر خاص اس پر ثبت کی جائے اور روپیہ وصول کرنے کے لئے انہیں تقسیم کیا جائے۔ جس میں معاہدہ ہوگا کہ مال گذاری کی آمدنی وصول ہونے پر سب کا روپیہ ادا کر دیا جایگا۔ قرض مذکور میں سے کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا۔ اور اس پر تمام لوگوں کو یقین دلا دو۔ ما سوا اس کے اگر وہ لوگ چندے کا بندوبست کریں گے تو علاوہ ان کا قرضہ ادا کرنے کے اپنے اپنے مرتبے اور لیاقت کے موافق ملازمت اور انعام بھی دیا جائے گا۔

ان حالات میں بہادر شاہ کے نیک ارادے، ان کی ذاتی

مستعدی اور سرگرمی کیا کام آسکتی تھی۔ ان فرامین کے مطالعہ سے یقین ہو جاتا ہے کہ بہادر شاہ کے بس میں جو کچھ تھا انہوں نے اس سے گریز نہ کیا لیکن یہ جنگ شروع ایسے وقت ہوئی جب ملک اس کے لئے پوری طرح تیار نہ تھا۔ اور اس فیصلے کی ذمہ داری بھی بہادر شاہ ظفر پر نہیں۔ وہ اس جنگ میں شریک ہوئے اور شرکت کی پوری ذمہ داریاں قبول کیں۔

آخر میں بہادر شاہ ظفر کی ایک نظم کے چند اشعار سنئے جو مجموعہ "فغان دہلی" میں شامل ہیں ۱۸۵۷ع کا ہنگامہ ایسا نہ تھا جس کا اثر صرف بہادر شاہ ظفر کی ذات یا اس کے متولیین تک محدود رہا۔ دلی جو اس سے پہلے بھی کئی بار لٹ چکی تھی اس مرتبہ ایسی اجڑی کہ پھر اس کی خرابی شرمندہ تعمیر نہ ہو سکی۔ دلی کے مثنے سے مراد صرف وہ عمارتیں نہیں جو آج کہنڈر بن چکی ہیں۔ دلی ایک تمہذیب، ایک معاشرت، ایک روایت کی علمبردار تھی۔ یہ تمہذیب یہ معاشرت اور یہ روایت اب محض ایک افسانہ رہ گئی ہے۔ لیکن اس چمن کے بعض عنادل اس وقت بھی نالہ سرا ہوئے تھے اور آج بھی نوحہ خوان ہیں۔ مجموعہ "فغان دہلی" میں انہیں نالوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا نالہ بہادر شاہ ظفر کا ہے:

کیا پوچھتے ہو کجروی چرخ چنبری
ہے اس ستم شعار کا شیوه ستمگری
کرتا ہے خوار تو نہیں جن کو ہے برتری
اس کے مزاج میں ہے یہ کیا سفلہ پروری
کھائے ہے گوشت زاغ فقط استخوان ہما
کیا منصفی ہے زاغ کہاں اور کہاں ہما
بالعکس ہیں زمانے میں جتنے ہیں کاروبار
شیوه کیا ہے الٹا زمانے نے اختیار
ہے موسم ہار خزان اور خزان بہار
آئی نظر عجب روشن باع روزگار

جو نخل پر ثمر ہیں انہا سکتے سر نہیں
 سر کش ہیں وہ درخت کہ جن میں ثمر نہیں
 باد صبا اڑاتی چمن میں ہے سر پہ خاک
 ملتے ہیں دم بدم کف افسوس برگ تاک
 غنچے ہیں دل گرفته گلوں کے جگر ہیں چاک
 کرتی ہیں بلبلیں یہی فریاد دردناک
 شاداب حیف خار ہوں گل پائمال ہوں
 گلشن ہوں خار نخل مغیلاں نہال ہوں
 جائیں نکل فلک کے احاطے سے ہم کھہاں
 ہوویگا سرپہ چرخ بھی جاوینگے ہم جہاں
 کوئی بلا ہے خانہ زندان یہ آسمان
 چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جان
 جو آگیا ہے اس محل تیرہ رنگ میں
 قید حیات سے ہے وہ قید فرنگ میں
 اور اس جنگ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں بہادر شاہ ظفر
 رنگوں میں جلا وطنی کی زندگی گزار کر قید حیات اور قید فرنگ
 دونوں سے چھوٹ گئے۔

انگریز افسروں کے خطوط

خاندانِ مغلیہ کی حکومت کے آخری دور میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی مخصوص مالگزاری وصول کرنے کی ٹھیکہ دار تھی۔ لیکن انگریزوں نے انگلی پکڑتے ہی پہنچا پکڑ لیا اور ہر قسم کا تسلط شروع کر دیا۔ بادشاہ صرف پنشن خوار رہ گیا۔ لال قلعہ پر بھی پھر چوکی انگریزوں کا رہتا تھا۔ اور ہر قسم کا ملکی انتظام بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ۱۱۔ مئی ۱۸۵۷ع کو میرٹھ چھاؤنی کے سپاہیوں نے اپنے انگریزی افسروں کی حکم عدولی کی اور کچھ سامان اسلحہ لیکر دہلی کی طرف کوچ کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ انگریزوں نے بہت سے ایسے کام کئے تھے جن کی وجہ سے بادشاہ کی رعایا ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ اول تو لارڈ ڈلہوزی نے، جو کمپنی کی طرف سے گورنر جنرل تھا، بہت سی ہندوستانی ریاستوں کو ضبط کر لیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑی ریاست، اودھ، اور مرہٹوں کی ریاست، ستارا، اسی گورنر جنرل نے ضبط کی تھی اور لوگوں کا عام طور پر خیال ہو گیا تھا کہ بس اب کوئی ریاست ضبطی سے نہ بچیگی۔ اس زمانے میں عیسائی پادریوں نے اپنے مذہب کا پرچار شروع کر دیا تھا۔ اور بہت سے مشنری مدارس شروع سے لیکر بی۔ اے تک جاری کردئے گئے تھے اور وہاں انجیل مقدس کا پڑھنا لازمی قرار دیدیا گیا تھا۔ ان باتوں سے عوام کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ عیسائی مذہب پھیلانے کی کوششیں ہیں۔ اور عام مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی۔

پھر کمپنی کی حکومت بھی جابر اور سخت تھی۔ فوج کے سپاہیوں پر جو فوری اثر بڑا وہ چربی کے نئے کارتوس کا تھا۔ انہیں منہ سے کھولکر بندوق کی نال میں لگایا جاتا تھا ان کارتوسوں کے بارے میں ہرجگہ سپاہیوں کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ان میں ہمارا دین دھرم بگاڑنے کے لئے سؤر اور گائے کی چربی استعمال کی گئی ہے۔

یکم اپریل ۱۸۵۷ع کو ایک اشتہار اس مضامون کا جامع مسجد دہلی میں چسپاں کیا گیا تھا کہ ۱۱ مئی کو دہلی لوٹی جائے گی۔ اور بڑا کشت و خون ہو گا۔ چنانچہ میرٹھ کے سپاہیوں کا ایک گروہ صبح کے وقت بجے کشتیوں سے دریا کو پار کر کے شہر میں داخل ہو گیا۔ ان میں کچھ نیزے سوار تھے اور گیارہ ہندوستانی رجمٹ کے پیدل اور بیس سوار تھے یہ لوگ ”سائمن فریزر“، ریزیڈنٹ کی کوٹھی میں گھس گئے۔ جو انگوری باغ میں قلعہ کے نیچے تھی۔ فریزر صاحب پر سپاہیوں نے حملہ کیا تو وہ براہ ثمن برج، قلعہ کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہاں سے قلعہ کے لاہوری دروازہ پر گئے اور دروازہ بند کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میرٹھ کے سپاہی آئے اور صوبہ دار سے دروازہ کھلوا کر قلعہ کے اندر داخل ہو گئے کپتان ڈگلس اور فریزر صاحب نے مقابلہ کرنا چاہا لیکن قلعہ کی گارڈ نے ان کا حکم نہ مانا اور یہ قلعہ کی اندرونی طرف بھاگے۔ راستے میں سپاہی مل گئے اور انہوں نے دونوں کو مار ڈالا۔ بہت سے سپاہی دریا گنج کی طرف چلے گئے۔ جہاں زیادہ تر انگریزوں کے مکانات تھے وہاں انہوں نے آگ لگادی۔ اس عرصے میں ایک اور انقلابی رجمٹ آئی۔ پانچ انگریزوں اور دو میمبوں کو شہر کے مفسدوں نے مار ڈالا۔ لیکن جس قدر عیسائی تھے وہ سب راجہ کشن گڑھ کی کوٹھی میں جا کر پناہ گیر ہو گئے اور وہ محفوظ رہے۔ جب دریا گنج جل کر خاک ہو گیا تو وہاں سے یہ رجمٹ بنک کی کوٹھی گئی اور انہی سپاہیوں میں سے پانچ سوار چھاؤنی پہنچے اور وہاں کے سپاہیوں کو اپنے زمرہ میں شامل کر کے فرنگی افسروں کے بنگلوں

کو جلانا شروع کر دیا۔ کچھ سوار اور سپاہی میگزین کی طرف بڑھے۔ مگر وہ سب سپاہی اور تقریباً ایک هزار شہری میگزین کے پہنچنے سے اڑ گئے۔ یہ میگزین خود انگریزوں نے اڑایا تھا۔ لفٹنٹ ریز۔ ڈیولی۔ شابکلی۔ کرڈ اور دیگر فوجی افسران وہاں موجود تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ میگزین ان کے قبضہ سے نکل جائے گا تو انہوں نے اسکو اڑادیا۔ اسکے بعد انقلابیوں کا قبضہ شہر دہلی پر مکمل ہو گیا۔ اور انقلابیوں کے دوسو سوار گوڑ گانوان کی طرف گئے اور سرکاری خزانہ، جس میں ہے لاکھ چوراسی هزار روپیہ تھا، لوٹ کر دہلی واپس آگئے اور اب دہلی اور گوڑ گانوان کے خزانہ کا کل روپیہ ملکر اکیس لاکھ چوراسی هزار روپیہ ہو گیا جو قلعہ شاہی اور انقلابی سپاہیوں کی حرast میں رکھا گیا اس وقت دہلی میں تین رجمنیں ایک میرٹھ کی اور دو خاص دہلی کی موجود تھیں ان کے علاوہ دو سو سوار اور بھی تھے۔ باقی انقلابیوں کی فوج علی گڑھ اور آگرہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن انقلابی تقریباً بیس، بائیس روز تک کرنال وغیرہ کی طرف نہ گئے اور نہ دہلی کی طرف انگریزوں کی کمک آنے کو روکا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جنرل سر ہنری برناڑ نے جو اس وقت کمانڈر انچیف تھا۔ صرف دو هزار فوج سے دہلی کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور انقلابیوں کے پاس کم از کم سات هزار فوج اس وقت موجود تھی، چنانچہ ایک مرسلہ جنرل سر ہنری برناڑ کمانڈر انچیف نے جارج کارنک برنس کے نام، جو دریائے ستیج کی مغربی ریاستوں کے کمشنر تھے، ۱۳ جون ۱۷۵۶ کو بھیجا تھا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ: ”ہر گھری مجھکو امید ہوتی ہے کہ ہماری توپیں قلعہ کی دیواروں کی توپوں کو خاموش کرسکتی اور مجھے اس قابل بناسکتی ہیں کہ کامیابی کی معقول امید کے ساتھ قریب پہنچکر اس مقام پر قبضہ کرلوں لیکن ان کی توپوں کی زیادتی میری ہمت پست کئے دیتی ہے۔ بس اب (جیسا کہ واقعہ ہے) میرے سامنے ہے اور مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ سوائے اس کے اور کوئی تدبیر

نہیں کہ میں ایک اچانک اور زبردست حملہ کردوں۔ لیکن ان چاندنی راتوں میں یہ کام آسان نہیں معلوم ہوتا میں صرف چھے توپوں کا انتظام کرسکا ہوں۔ اور ان کے چلانے والے بھی بالکل ناتجربہ کار ہیں۔ یہ (باغی) حیوان تقریباً ہر روز باہر نکلتے ہیں اور دو دفعہ تو میں نے انہیں خاصی کمی کے ساتھ واپس بھیجا لیکن میرے سپاہی بھی ضائع جاتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ آٹھویں تاریخ سے لیکر اب تک اوپر تلے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں ۲۳ پونڈ وزنی گولہ پھینکنے والی توپیں باغیوں کے برجوں میں ہر جگہ نصب ہیں اور ان کے پیچھے تقریباً سات ہزار سپاہی بھی موجود ہیں (ایسی حالت میں) داخلہ آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، -

دوسرے خط مورخہ ۱۷ جون ۱۸۵۷ء میں لکھتے ہیں کہ ”جو دیواریں (فصیلیں) کہ میدانی توپوں کے ذریعہ منہدم کی جانے والی تھیں وہ ۱۸ پونڈ وزنی گولوں کے مقابلہ میں جوں کی تتوں نہایت مضبوطی سے قائم ہیں، -

ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ انقلابیوں نے انگریزوں کی فوج پر چھوٹے حملے تو کئے لیکن کوئی زبردست حملہ نہ کیا۔ حالانکہ ان کے پاس فوج بھی زیادہ تھی اور توپیں بھی زیادہ بھاری گولہ چلاسکتی تھیں۔ شاید تجربہ کار افسروں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا حملہ نہ کرسکے۔ ورنہ پہلی ہی جنگ آزادی میں ہم انگریزوں سے آزاد ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ انقلابیوں کی عدم کامیابی سے متنفر ہو کر ایک بوڑھی خاتون، سبز پوش، گھوڑے پر سوار اور تلوار و بندوق سے مسلح ہو کر خود میدان جنگ میں اتر آئی تھی جسکو لفڑت ہڈ سن نے اپنی چٹھی میں جوں آف آرک سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرا مارسلے مورخہ ۱۸ جون میں وہ لکھتے ہیں کہ ”مجھے قدرے اطمینان ہوا اس لئے کہ آپ نے اس تجویز کو نا پسند کیا کہ میں اپنی مختصر سی فوج کو لے کر دہلی میں داخل ہونے کا خطرناک تجربہ کروں۔ جو فوج کہ

دو هزار سپاہیوں سے بھی کم ہو اور جو دہلی جیسے طول و عرض کے شہر میں پھیلی ہوئی ہو، وہ کوئی فوجی طاقت نہیں رہ سکتی تھی۔ ضرب لگانے کے لئے مناسب موقع کا احتیاط کے ساتھ مجھے انتظار ہے۔ حالت یہ ہے کہ دہلی توپوں سے پٹی پڑی ہے۔ اور وہاں وہ سپاہی مقیم ہیں جو اگرچہ کھلے میدان میں چندان اہمیت نہیں رکھتے تاہم پتھر کی فصیلوں کے پیچھے رہ کر کچھ نہ کچھ کار گزاری بالضرور دکھا سکتے ہیں۔ اور جنہیں بھاری توپوں کے استعمال سے بھی کچھ واقفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہفتے کے دن گولہ باری کی صحت و درستی نے ہمیں نیچا دکھایا۔ پس انبالہ والی فوج اور چھ توپیں رکھنے والی دو پلنٹیں اس پر کبھی اپنا قبضہ نہیں جماسکتیں

”ذرا ایک مرتبہ ہم شہر میں پہنچ جائیں پھر تو بازی ہماری ہے بشرطیکہ ہم اس پر قبضہ رکھ سکیں۔ تاخیر سخت تکلیف دہ ہے اور روزانہ ان حملوں میں سپاہیوں کا ضائع جانا نہایت دل شکن معلوم ہوتا ہے۔

باوجود اس کے کہ یہ انقلابی، بادشاہ یا بادشاہ کے ولی عہد کے حکم کی پروا نہ کرتے تھے، انہوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ یا تو دو مہینے کی تنخواہ دو یا ہمارا روزینہ مقرر کر دو۔ اس پر بادشاہ نے عام لوٹ مار بچانے کے لئے شہر کے مہاجنوں سے کہا کہ اگر وہ سپاہ کی درخواست پوری نہ کریں گے تو سب اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مہاجنوں نے کہا کہ ہم ان کو صرف یہ روز تک دال روٹی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن انقلابی اس پر راضی نہ ہوئے۔ اس وقت بادشاہ نے یہ سن کر پیدل کے چار آنے یومیہ اور سوار کا ایک روپیہ مقرر کر دیا۔

اب انقلابیوں نے شہر کی ناکہ بنڈی شروع کر دی جس کی وجہ سے شہر میں سامان خورد و نوش بھی آنا بند ہو گیا۔ اور باشندگان شہر ناقابل اطمینان حالت میں دن گزارنے لگے۔ ہر روز ایک نیا کوتوال مقرر ہوتا تھا۔ اور انقلابی جہاں نقد روپیہ دیکھتے

فوراً لوٹ لیتے۔ یہ سب روپیہ سپاہیوں کے قبضہ میں رہتا اور خزانہ شاہی میں ایک جبکہ داخل نہ ہوتا۔ بعض رجمنڈوں کے پاس اس قدر روپیہ جمع ہو گیا تھا کہ وہ بمشکل حرکت کرسکتی تھیں۔

بادشاہ کا حکم شاذ و نادر ہی مانا جاتا تھا۔ اور شہزادوں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا۔ سپاہ بالکل بے سری ہو گئی تھی۔ نہ بگل کو مانتے تھے نہ افسروں کی سنتے تھے اور نہ اپنا متعلقہ کام انجام دیتے تھے۔ فوج کی گنتی تو ایک طرف رہی، کبھی وردی بھی نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کیا کامیابی کی امید ہو سکتی تھی۔ اگرچہ فوجی سامان کی کمی نہ تھی اور لڑنے والے بھی بہت تھے لیکن کمی صرف نظم و ترتیب کی تھی اور یہی حال کانپور اور لکھنؤ وغیرہ کا بھی تھا۔ اگر سب یہ مطالبہ کرتے کہ کمپنی کی بجائے بادشاہ کی حکومت رہے گی اور کمپنی کی ٹھیکہ داری موقوف ہو گئی تو لوگوں اور خود انگریزوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ پھر سب اس جنگ آزادی میں شریک ہو جاتے اور انگریزوں کی مدد نہ کرتے۔

ایک مراسلہ سرجان لارنس چیف کمشنر پنجاب نے جارج کارنک بارنس کو ۱۱۔ اکتوبر ۷۵ع کو بھیجا تھا جس میں لکھا تھا۔ طوفان ختم ہو گیا اور ہمیں سانس لینے کی فرصت ملی۔ یقیناً یہ بات ہماری توقعات سے زیادہ نکلی کہ تمام پنجابی پلنیں وفادار رہیں۔ پیشالہ، نابہہ اور جیند کے لئے جو انعامات ہمیں تجویز کرنے چاہئیں۔ ان پر ذرا اپنے ذہن میں غور و خوض کر لیجئے۔ انہیں ضرور انعام و اکرام چاہئے۔ اگر وہ وفاداری نہ کرتے تو ہم کہاں کے رہتے؟

—*

غالب کے مکاتیب

(مولانا غلام رسول مہر)

سرزمین پاک و ہند میں انگریزوں کی حکمرانی کا سنگ بنیاد پلاسی کے میدان میں رکھا گیا۔ بعد ازان قریباً نوئے برس میں یہ اجنبی حکومت پورے ملک پر مسلط ہو گئی اور مزید سو برس تک عنان فرمانروائی اسی کے ہاتھ میں رہی۔ اس عہد کا ایک نہایت اہم واقعہ ۱۸۵۷ع کا وہ ہنگامہ خونین تھا جسے اہل وطن ابتدا ہی سے ”ہنگ آزادی“، قرار دیتے رہے۔ لیکن خود انگریزوں نے اسے ”غدر“ کا نام دیا۔ یہی نام مدت تک تاریخ کی درسی کتابوں میں استعمال ہوتا رہا۔

مرزا غالب نے اپنی فارسی اور اردو تصانیف نظم و نثر میں اس واقعہ پر جو کچھ لکھا اگر اسے الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا جائے تو یقین ہے کہ ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے۔ فارسی نشر کی ایک کتاب جس کا نام ”دستبیو“ ہے صرف اسی واقعہ سے متعلق ہے۔ لیکن میں آج جو نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ محض مرزا کے مکاتیب سے جستہ جستہ اقتباسات لے کر تیار کیا ہے۔

تمہید کے طور پر عرض کر دینا چاہئے کہ اس ہنگامے کا آغاز ۱۱- مئی ۱۸۵۷ع کو پیر کے دن ہوا تھا۔ چار مہینے اور چار دن انگریز شہر سے بے دخل رہے۔ ۱۳- ستمبر ۱۸۵۷ع

کو وہ دوبارہ دہلی میں داخل ہوئے۔ ۱۸ ستمبر کو شہر مکمل طور پر ان کے قبضے میں آگیا۔ مرزا اس پوری مدت میں ایک دن کے لئے بھی باہر نہ نکلے۔ ان کا مکان بلی ماران میں تھا جہاں شریف خانی حکیموں کے مکانات تھے۔ اس خاندان کے بعض افراد سرکار پٹیالہ میں ملازم تھے۔ جب انگریزی فوج دوبارہ دہلی میں داخل ہوئی تو اہل شہر گھر بار چھوڑ کر دہلی دروازے ترکمان دروازے اور اجمیری دروازے سے باہر نکل گئے۔ بلی ماران کے دروازے پر والئی پٹیالہ نے شریف خانی خاندان کی حفاظت کے لئے اپنا پہرہ بٹھا دیا تھا۔ اس طرح مرزا کی حفاظت کا بھی بندوبست ہو گیا۔ اور انہیں گھر بار چھوڑ کر باہر نہ نکلنا پڑا۔

مرزا کے مکاتیب میں اس واقعے کے متعلق سب سے پہلی تحریر نومبر ۱۸۵۷ع کی ہے جب کہ انگریز شہر پر قابض ہو چکے تھے۔ حکیم غلام نجف کو لکھتے ہیں :

”میاں حقیقت حال اس سے زیادہ نہیں کہ اب تک جیتا ہوں۔ بھاگ نہیں گیا۔ نکلا نہیں گیا۔ لٹا نہیں۔ کسی محکمرے میں اب تک بلا یا نہیں گیا۔ معرض باز پرس میں نہیں آیا۔ آئندہ دیکھئے کیا ہوتا ہے،“

پھر ۹ - جنوری ۱۸۵۸ع کو تحریر فرماتے ہیں :

”جو دم ہے غنیمت ہے۔ اس وقت تک مع عیال و اطفال جیتا ہوں۔ بعد گھڑی بھر کے کیا ہو کچھ معلوم نہیں۔ قلم ہاتھ میں لئے بہت کچھ لکھنے کو جی چاہتا ہے۔ مگر لکھ نہیں سکتا۔ اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہہ لینگے ورنہ انا اللہ و انا الیہ راجعون،“

یہ اگرچہ چند فقرے ہیں جن میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ لیکن لفظ لفظ بتارہا ہے کہ اس وقت حالات کتنے نازک تھے اور بے یقینی کس پیمانے پر پہنچی ہوئی تھی۔

یہ ہنگامہ در حقیقت ایک خوفناک زلزلہ تھا جس نے

سب کچھ تھے و بالا کر ڈالا۔ جس ماحول میں مرزا نے اپنی زندگی کے ساتھ برس گزارے تھے اسکی بساط لپیٹی جا چکی تھی۔ اور اس کی جگہ بالکل نیا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ مرزا کے دل پر اس وسیع اور ہمہ گیر انقلاب کا اتنا گھبرا اثر تھا کہ وہ ۱۸۵۷ع کے پیشتر کے دور اور بعد کے دور کو دو الگ الگ عالم سمجھنے لگے تھے۔ یا کہنا چاہئے کہ ہندوؤں کے طریق تعبیر کے مطابق ان کے نزدیک ایک جنم ختم ہو گیا تھا، اور دوسرا جنم وجود میں آگیا تھا۔ اپنے عزیز ہندو شاگرد ہر گوپال تفتہ کو تحریر فرمائے ہیں :

”صاحب۔ تم جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا واقعہ ہوا۔ وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم باہم دوست تھے۔ اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات سہر و محبت در پیش آئے۔ شعر کہیے۔ دیوان لکھئے اس زمانے میں ایک بزرگ تھے اور ہمارے تمہارے دلی دوست تھے۔ منشی نبی بخش ان کا نام اور ”حقیر، ان کا تخلص۔ نہ وہ زمانہ رہا نہ وہ اشخاص۔ نہ وہ معاملات نہ وہ اختلاط نہ وہ انساط۔ بعد چند مدت کے پھر دوسرا جنم ہم کو ملا۔ اگرچہ صورت اس جنم کی بعینہ مثل پہلے جنم کے ہے۔ یعنی ایک خط میں نے منشی صاحب کو بھیجا۔ اس کا جواب آیا۔ ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم بہ منشی ہر گوپال و متخلص بہ تفتہ ہو، آیا اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کا نام دلی اور اس محلے کا نام بلیماراں کا محلہ۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں سے نہیں پایا جاتا،۔

میں عرض کرچکا ہوں کہ انگریزی فوج کے داخلے کے ساتھ ہی اہل شہر باہر نکل گئے تھے۔ اور پورا شہر بے چراغ ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے اس کے بعد عام دارو گیر کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مرزا فرماتے ہیں : ”مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے وہ نکالے گئے۔ جا گیردار پنشن دار، دولت مند، اہل حرفة کوئی بھی نہیں۔ مفصل لکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ملازمان

قلعہ پر شدت ہے - باز پرس اور دارو دیر میں مبتلا ہیں،،۔
پھر فرماتے ہیں :

”اپنے مکان میں بیٹھا ہوں - دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا - سوار ہونا اور کہیں جانا تو بڑی بات ہے رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے - شہر میں ہے کون جو آوے؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں - مجرم سیاست پائے جانتے ہیں - جرنیلی بندویست یعنی (مارشل لا) یازدهم مئی سے آج تک یعنی پنجشنبہ پنجم دسمبر ۱۸۵۷ع تک بدستور ہے - کچھ نیک و بد کا حال مجھکو نہیں معلوم،،۔

مرزا کے ایک شاگرد، منشی شیونارائین ”آرام،، نے آگرے سے ایک اخبار نکالا تھا - مرزا سے استدعا کی کہ اس کے لئے خریدار بہم پہنچائیے - جواب میں فرماتے ہیں :

”یہاں آدمی کہاں ہیں کہ اخبار کے خریدار ہوں - مہاجن لوگ جو یہاں بستے ہیں وہ یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ گیہوں کہاں سستے ہیں - بہت سخی ہو گئے تو جنس پوری دے دیں گے - کاغذ (یعنی اخبار) روپیہ مہینے کا کیوں مول لیں گے،، میر مہدی محروم نے اسی زمانے میں ایک غزل بھیجی اس کے مقطع کا آخری مصروع یہ تھا :

”میاں یہ اہل دہلی کی زبان ہے،،

اس مصروع نے مرزا کے ساز درد کا ہر تار ہلا دیا - فرماتے ہیں : ”اے میر مہدی - تجھے شرم نہیں آتی ”میاں یہ اہل دہلی کی زبان ہے،،۔

”اے، اب اہل دہلی هندو ہیں یا اہل حرفہ ہیں - خاکی ہیں یا پنجابی ہیں یا گورے ہیں ان میں سے تو کس کی تعریف کرتا ہے اے بنڈہ خدا اردو بازار نہ رہا - اردو کہاں؟ دلی کہاں والہ اب شہر نہیں ہے - کیمپ ہے - چھاؤنی ہے نہ قلعہ نہ شہر نہ بازار نہ نہر،، نواب علاؤالدین خان کو لکھتے ہیں :

”میری جان - یہ وہ دلی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے
ایک کیمپ ہے - مسلمان اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ، باقی
سراسر ہنود،“ -

جنگ آزادی میں اگرچہ ہندوؤں اور مسلمانوں نے یکسان
حصہ لیا تھا لیکن انگریزوں کی نظروں میں اصل مجرم صرف مسلمان
تھے - چنانچہ وہی زیادہ تر داروگیر کے هدف بنے۔ انہیں کو بالعموم
پہانسیاں ملیں۔ انہیں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں شہر سے باہر
نکلنے میں بھی ہندو اور مسلمان برابر تھے۔ لیکن ہندوؤں کو
بہت جلد گھروں میں آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ مسلمان
بدستور باہر پڑے رہے۔ یا جن کو کسی دوسرے شہر میں
ٹھکانا نظر آیا، وہاں چلے گئے۔ مرزا لکھتے ہیں :

”والله ڈھونڈھے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔
کیا امیر، کیا غریب کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہیں تو باہر کے
ہیں۔ ہنود البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں۔
ایک اور خط میں لکھتے ہیں،“ -

”ابھی دیکھا چاہئے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے
یا نہیں،“ -

مدت تک مسلمانوں کو شہر میں آباد ہونے کا حکم نہ ملا۔
تو ان میں سے بعض نے شہر کے باہر ہی جگہ جگہ عارضی مکان
بنانے شروع کر دئے۔ اس پر حکم ہوا کہ سب مکان ڈھادنے جائیں
اور اعلان کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی مکان نہ بنائے۔ مرزا
لکھتے ہیں :

”کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان
وکان کیوں بناتے ہیں۔ جو مکان بن چکے ہیں انہیں گروا دو۔
آئندہ کو ممانعت کا حکم سنادو۔ آج تک یہ صورت ہے۔ دیکھئے
شہر کے بسنے کی کونسی مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی خارج
کئے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔
الملک لله و الحکم لله،“ -

جنگ آزادی سے کم و بیش دو برس بعد حکم ہوا کہ مالکان مکان اپنے مکانوں میں آجائیں۔ لیکن کرايه دار باہر ہی پڑے رہیں۔ اوائل نومبر ۱۸۵۹ع میں حکم ہوا کہ کرايه دار بھی آجائیں۔ لیکن کرايه مالکان مکان کو نہیں بلکہ سرکار کو ادا کریں۔ مرتضیٰ نومبر ۱۸۵۹ع کے ایک خط میں فرماتے ہیں :

”آگے حکم تھا کہ مالکان مکان رہیں۔ کرايه دار نہ رہیں۔ پرسوں سے حکم ہو گیا کہ کرايه دار بھی رہیں۔ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ تم یا میں یا کوئی اور اپنے مکان میں کرايه دار کو آباد کریں۔ وہ لوگ جو گھر کا نشان نہیں رکھتے اور ہمیشہ کرانے کے مکانوں میں رہتے تھے، وہ بھی آرہیں مگر کرايه سرکار کو ادا کریں،۔ ابتدا میں کوئی شخص اجازت کے بغیر شہر میں نہیں آسکتا تھا جو چھپ چھپا کر آجاتا اور پکڑا جاتا اس کے پانچ بیوں لگتے یا دو روپے جرمانہ لیا جاتا۔ اور آٹھ دن قید میں رہتا۔ پھر ٹکٹ چھاپے گئے۔ اور اعلان ہو گیا کہ جو مسلمان شہر میں آباد ہونا چاہے وہ ٹکٹ خریدیں اور اپنی حیثیت کے مطابق جرمانہ داخل کرے۔ چنانچہ ٹکٹ پر یہ عبارت درج کر دی گئی تھی۔ ”ٹکٹ آبادی درون شہر بہ شرط ادخال جرمانہ،۔ جرمانے یا نذرانے کی رقم حاکم کی رائے پر موقوف تھی۔ جتنی رقم وہ مقرر کردیتا ادا کرنی پڑتی تھی،۔

مرتضیٰ کے نہایت عزیز دوستوں میں سے مولانا فضل حق خیر آبادی پر مقدمہ چلا۔ کالے پانی بھیجے گئے۔ اور وہیں ۱۹ اگست ۱۸۶۱ع کو فوت ہوئے۔ مفتی صدر الدین ”آزردہ“ کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی۔ خاصی تگ و دو کے بعد انہیں کچھ جائیداد ملی۔ جس سے ماہانہ چالیس روپے کرايه وصول ہوتا تھا۔ اسی میں گزارا کرتے رہے، نواب مصطفیٰ خان پر مقدمہ بنا۔ سات برس قید کی سزا پائی اور جائیداد ضبط ہو گئی۔ اپیل میں وہ بری ہوئے۔ مظفر الدولہ، سیف الدین حیدر خاں، حسین مرتضیٰ مدت تک لکھنؤ اور کلکتے کی جانب سرگردان پھرتے رہے۔ ان کا

گھر بار تباہ ہو گیا۔ جائیداد ضبط ہو گئی۔ نواب حامد علی خان گرفتار ہوئے ان پر مقدمہ چلا۔ جائیداد ضبط ہو گئی۔ محل سرا اور کونٹھی پر گوروں نے قبضہ کر لیا۔ دکانیں ڈھادی گئیں۔ اور ان کا ملبہ فروخت کر کے روپیہ داخل خزانہ سرکار ہوا۔ حامد علی خان بیچارے نے داروگیر سے پائی رہائی تو کرانے کے مکان میں رہنے لگے۔ تباہی کی عام حالت مرزا کی زبان سے سنئے۔ فرماتے ہیں :

امراء اسلام میں سے حسن علی خان بڑے باپ کا بیٹا سو روپیے روز کا پنسن دار، سو روپیے مہینے کا روزینہ دار بن کر نامراد بن گیا۔ میر ناصر الدین باپ کی طرف سے پیر زادہ اور نانا کی طرف سے امیر زادہ مظلوم مارا گیا۔ آغا سلطان بخش محمد علی خان کا بیٹا جو خود بھی خدا بخش ہو چکا ہے، بیمار پڑا۔ نہ دوا نہ غذا، انجام کار مس گیا۔ تمہارے چچا (نواب خیاء الدین احمد خان کی سرکار سے تجمیع و تکفین ہوئی۔ احباب کو پوچھو۔ ناظر حسین مرزا جس کا بڑا بھائی مقتولوں میں آگیا ہے، اس کے پاس ایک پیسہ نہیں۔ ٹکرے کی آمد نہیں۔ مکان اگرچہ رہنے کو مل گیا ہے۔ مگر دیکھئے چھٹا رہے یا ضبط ہو جائے۔ بدھے صاحب ساری املاک بیچ نوش جان کر کے بھی یک بینی و دو گوش بھرت پورچلے گئے۔ ضیاء الدولہ کے پاس پانچ سو روپیے کی املاک واگذشت ہو کر پھر قرق ہو گئی۔ تباہ و برباد لاہور گیا ہے۔ وہاں پڑا ہوا ہے۔ دیکھئے کیا ہو۔ قصہ کوتاہ قلعہ اور جھوجھر اور بہادر گڑھ اور بلب گڑھ اور فرخ نگر کم و بیش تیس لاکھ روپے کی ریاستیں مٹ گئیں۔ شہر کی امارتیں خاک میں مل گئیں،،۔ ایک اور خط میں یوسف مرزا کو لکھتے ہیں :

”میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کثرت غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ اگر اس هجوم غم میں میری قوت متفرکہ میں فرق آگیا ہے تو کیا عجب ہے، بلکہ اس کا باور نہ کرنا غصب ہے۔ پوچھو کہ کیا غم ہے۔ غم مرگ۔ غم فراق، غم رزق، غم عزت۔ میں

قلعہ نا مبارک سے قطع نظر کر کے اہل شہر کو گنتا ہوں۔ مظفر الدولہ میر ناصر الدین، مرزا عاشور بیگ، میرا بھانجا، اس کا بیٹا احمد مرزا، انیس بیس برس کا بچہ، مصطفیٰ خان ابن اعظم الدولہ اس کے دو بیٹے ارتضی خان اور مرتضی خان، قاضی فیض اللہ۔ کیا میں ان کو اپنے عزیزوں کے برابر نہیں جانتا تھا؟ اے لو بھول گیا حکیم رضی الدین خان، میر احمد حسین میکش، اللہ اللہ۔ ان کو کہاں سے لاؤں۔ غم فراق: حسین مرزا یوسف مرزا میر سرفراز حسین میرن صاحب۔ خدا ان کو جیتا رکھئے۔ کاش یہ ہوتا کہ جہاں ہوتے خوش ہوتے۔ گھر ان کے بے چراغ وہ خود آوارہ۔ سجاد اور اکبر کے حال کا جب تصور کرتا ہوں، کایجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ ان اموات کے غم اور زندوں کے فراق میں عالم میری نظر میں تیرہ ہوتا ہے۔ یہاں اغنیا و امرا کے اولاد و ازدواج بھیک مانگتے پھریں اور میں دیکھوں،۔

مرزا کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوئی واقعہ پیش آجاتا تو ان کے دل میں جنگ آزادی کے بعد کا دور مصائب تازہ ہو جاتا۔ ان کے شاگرد مرزا تفتہ نے اپنی کتاب ”سنبلستان“، چھپوائی۔ اس کی لکھائی چھپائی اچھی نہ تھی۔ مرزا نے اس واقعے کو بیگمات قلعہ کی مصیبتوں اور بد حالیوں پر آنسو پہائے کا بہانہ بنالیا۔ فرماتے ہیں:

”اجی مرزا تفتہ تم نے اپنا روپیہ بھی کھویا اور اپنی فکر کو اور میری اصلاح کو بھی ڈبویا۔ ہائے کیا بڑی کاپی ہے۔ اس کاپی کی مثال جب تم پہ کھلتی کہ تم یہاں ہوتے۔ اور بیگمات قلعہ کو پھرنے چلتے دیکھتے۔ صورت ماہ دو ہفتہ کی سی اور کپڑے میلے پائینچے لیر لیر۔ جوتی ٹوٹی۔ یہ مبالغہ نہیں،۔ اس وقت کے انگریزوں کی دماغی حالت کا اندازہ صرف اس واقعہ سے ہو سکیگا کہ انہوں نے جامع مسجد کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اور اس کے دروازوں پر ایک سکھ بٹالیں کا پھرہ بٹھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ تجویز بھی پیش ہوئی تھی کہ اسے گرجا بنالیا

جائے۔ جنگ آزادی سے قریبًا پانچ برس بعد مسجد وا گزار ہوئی۔

مرزا نے ایک عجیب عبرت افزا واقعہ لکھا ہے۔ جن مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں ان میں ایک حافظ محمد بخش تھے جن کا عرف ”مموں“ تھا۔ بعد میں وہ بے قصور ثابت ہوئے اور جائیداد کی بحالی کا حکم مل گیا۔ انہوں نے کچھری میں درخواست دی کہ میری جائیداد پر قبضہ دلا�ا جائے۔ انگریز حاکم نے نام پوچھا۔ عرض کیا تھا بخش۔ چونکہ درخواست میں عرف بھی درج تھا اس لئے حاکم نے پوچھا ”مموں، مموں، کون ہے؟ عرض کیا کہ نام میرا محمد بخش ہے۔ لوگ مجھے ”مموں، مموں،“ کہہ کر پکارتے ہیں۔ صاحب نے سن کر فرمایا:

”یہ کچھ بات نہیں۔ حافظ محمد بخش بھی تم۔ حافظ مموں بھی تم۔ سارا جہاں بھی تم جو دنیا میں ہے وہ بھی تم۔ ہم مکان کس کو دیں؟ مسل داخل دفتر ہوئی۔ میاں مموں اپنے گھر چلے آئے۔“

آخر میں جنگ آزادی کے متعلق مرزا کا ایک قطعہ لکھتا ہوں جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو خط ہی میں لکھا تھا۔ یہ ان کے مکاتیب میں چھپ گیا اور دیوان میں شامل نہ ہوسکا:

بسکہ فعال ما یرید ہے آج

هر سلح شور انگلستان کا

گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے

زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا

چوک جسکو کہیں وہ مقتل ہے

گھر نمونہ بنا ہے زندان کا

شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک

تشنه خون ہے ہر مسلمان کا

کوئی وان سے نہ آسکے یاں تک
آدمی وان نہ جاسکے یاں کا

میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا
وہی رونا تن و دل و جان کا

گہ جل کر کیا کئے شکوہ
سوژش داغ ہائے پنہاں کا

گہ رو کر کہا کئے باہم
ماجرا دیدہ ہائے گریاں کا

اس طرح کے وصال سے یا رب
کیا مٹے دل سے داغ هجران کا

—*—



(ریڈیو پاکستان کے شکریہ کے ساتھ)

ادارہ مطبوعات پاکستان، پوسٹ بکس نمبر ۱۸۳ - کراچی